



**Secretlab MAGRGB™ Diffused LED Strip  
Smart Lighting Edition**


**USER MANUAL**

<b>PACKAGE CONTENTS</b>	_____	Pg. 1
<b>PRODUCT SPECIFICATIONS</b>	_____	Pg. 1
<b>INSTALLATION</b>	_____	Pg. 2 - 3
<b>DOWNLOAD THE APP</b>	_____	Pg. 4
<b>PAIRING YOUR SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 5
<b>CONTROLLING YOUR SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 6
<b>PROBLEMS &amp; SOLUTIONS</b>	_____	Pg. 7
<b>WARNINGS &amp; CAUTION</b>	_____	Pg. 8 - 9

# PACKAGE CONTENTS

## SECRETLAB MAGRGB™ DIFFUSED LED STRIP (SMART LIGHTING EDITION)

X 1



Refer to the Warnings and Caution page for magnet safety information.




### CONNECTOR CABLE

36 cm  
X 1




### CONTROLLER BOX

X 1



### POWER ADAPTER

Type A / C / G / I  
X 1



# PRODUCT SPECIFICATIONS

**Models:** NL72S2N15, NL72S2N17

**Input Voltage:** 120V AC, 60Hz

**Models:** NL72S2E15, NL72S2E17

**Input Voltage:** 100-240V~, 50/60Hz

**Dimensions:** 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

### Rated Power:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

**Dimming:** 1%-100% with Nanoleaf App

**Contains FCC ID:** 2AC7Z-ESPC6WROOM1

**Contains IC:** 21098-ESPC6WROOM1



### Manufacturer

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

### Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain


### Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France


[support@secretlab.co](mailto:support@secretlab.co)

# INSTALLATION


- 1** Determine which side of your desk provides easier access to a power outlet. The Secretlab MAGRGB™ can be powered from either end of the lightstrip.




- 2** Insert the cable into the connector on the lightstrip. Ensure that the cable is fully connected with the connector.




- 3** Lift the rear cover of your Secretlab MAGNUS Metal Desk.




- 4** Face the translucent side of your Secretlab MAGRGB™ strip towards the back of the desk.



- 5** Align the end of the strip with the side of the desk and magnetically attach the end connector to the underside of the desk.




- 6** Attach the remaining length of the Secretlab MAGRGB™ strip to the underside of the desk, making sure that each of the embedded magnets snaps into place.




# INSTALLATION

- 7** Connect the connector cable on the lightstrip and the 12V DC plug on the adapter to the controller. Plug the adapter into a suitable power outlet.




- 8** Press the power button on the controller to power up your Secretlab MAGRGB™. You're now ready to pair it with your smartphone.



# DOWNLOAD THE APP



To download the Nanoleaf Mobile App on your smartphone, scan the respective QR codes.



## Nanoleaf Desktop App


To use Screen Mirror feature, please download the Nanoleaf desktop app on your computer by visiting the following link:

<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>

Desktop app requires a min. of Windows 10 & macOS 12.

**To ensure a smooth pairing process, please make sure you have the following things ready:**

- Your iOS or Android device with Bluetooth and Wifi (2.4GHz) is ON.
- Requires iOS 15.4+ or Android 9+.
- Pairing Code found on the back of the controller.




# PAIRING YOUR SECRETLAB MAGRGB™


- 1 Download and launch the Nanoleaf App on your smartphone by scanning the QR codes.



- 2 Select the **MORE** tab.



- 3 Select the "My Devices" tab, tap the "+" to add a new device, and the camera will automatically open.




- 4 You can choose to scan the pairing QR code, enter the pairing code manually for pairing.

- 5 When you choose to manually enter the pairing code, select "Secretlab MAGRGB™" as the product, then click "Pair" and enter the pairing code.


- 6 Once the pairing is done, your product should now be connected and ready for use!

## CONTROLLING YOUR SECRETLAB MAGRGB™ (CONTROLLER BOX)



## CONTROLLING YOUR SECRETLAB MAGRGB™ (NANOLEAF APP)

Turn your lighting on and off, control brightness, group lights by home and by room, create and use Scenes, and much more.




### DASHBOARD

Easily view all your rooms and devices at a glance.



### CUSTOMIZE

Make your Secretlab MAGRGB™ your own. Choose from a wide range of colors and Scenes or create your own.



### EXPLORE

Get access to helpful information including tutorials, new device features and more.



## RESET OPTIONS

If you're experiencing any issues with your Secretlab MAGRGB™, try these steps:

### 1) POWER CYCLE

Power cycle your lightstrip by unplugging it from your power outlet and then plugging it back in again.

### 2) WiFi

Toggle your WiFi off and back on. Alternatively, restart the app you're using to control your lights or restart your device.

### 3) CHECK FOR POWER

Make sure that your power switch isn't turned off at the outlet or power bar.

### 4) PERFORM A RESET

This will delete your pairing and network information, so you will need to pair again. Before resetting, delete your Secretlab MAGRGB™ from the Nanoleaf app by navigating to More > My Devices > Swipe Left on your Secretlab MAGRGB™ > Delete.

To perform a factory reset on your Secretlab MAGRGB™, Press and hold the Power ON/OFF button on the Controller for 10s. If the reset is successful, the lightstrip will flash red three times before going dark. It will then be ready for pairing again.



If you've performed all of these steps and your issue still persists, please reach out to our support team for further assistance.

# WARNINGS & CAUTION

Ideal operating temperatures range from 0-40°C <95RH%. Do not use in totally enclosed fixture. Product is designed for indoor use only and is not waterproof.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid posing an electrical or fire hazard. Non-replaceable light source is used in this product. If the light source is damaged, please do not disassemble the lamp by yourself. Do not match the Type C header of this product with the USB header of any other product or adapter. This may cause your product to be unusable.

## MAGNET SAFETY INFORMATION

### WARNING:

This manual contains important safety information to help you handle neodymium magnets properly and avoid personal injury and damage to the magnets themselves. Read all the safety information below prior to installation and usage.

### Handling

Exercise care when attaching parts with neodymium magnets to avoid being pinched. Neodymium magnets are also brittle. Avoid subjecting them to hard impacts to prevent breakage. If broken, dispose of pieces with care as they may be sharp.

### Keep Magnets Away from Children and Pets

To help prevent serious magnet ingestion injuries, keep magnets that are small enough to be swallowed away from children and pets. Small magnets can also pose a choking hazard. Seek immediate medical attention if magnets are swallowed or inhaled.

### Magnetic Media

Keep away from devices and products that can be damaged by strong magnetic fields (e.g. computer hard drives, credit cards and cassette tapes).

### Medical Device

Neodymium magnets can interfere with pacemakers and other implanted medical devices. We recommend consulting your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device and whether you would need to maintain a minimum distance between your medical device and our product.

### Allergies

Avoid contact with neodymium magnets if you have a nickel allergy.

### Machining and Drilling

Do not drill or attempt to modify the magnets as neodymium magnet dust and powder are highly flammable.

### Maintenance

Neodymium magnets will retain their magnetism and integrity for decades when handled, utilised and protected properly.

# WARNINGS & CAUTION

## FCC and ID IC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## RADIO FREQUENCY

Bluetooth: 2400-2483.5 MHz <20dBm; Wi-Fi: 2412MHz-2462 MHz <20dBm (NA, CA, IL);

Wi-Fi: 2412MHz-2472 MHz <20dBm (CN, EU, AU, KR, JP, SG, etc)

## CE DECLARATION

NanoGrid Limited (Nanoleaf) hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity is available at [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## UKCA DECLARATION

NanoGrid Limited (Nanoleaf) hereby declares that this device is in compliance with the product requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017. The declaration of conformity is available at [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheellie bin symbol is attached to a product, it means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Please find out about your local collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

## LEGAL NOTICE

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.



**Secretlab MAGRGB™ Diffuser LED-Streifen  
Smart Lighting Edition**

# **BENUTZERHANDBUCH**

<b>PACKUNGSINHALT</b>	_____	S. 1
<b>PRODUKTSPEZIFIKATIONEN</b>	_____	S. 1
<b>MONTAGE</b>	_____	S. 2 - 3
<b>DIE APP HERUNTERLADEN</b>	_____	S. 4
<b>SECRETLAB MAGRGB™ KOPPELN</b>	_____	S. 5
<b>SECRETLAB MAGRGB™ STEUERN</b>	_____	S. 6
<b>PROBLEME &amp; LÖSUNGEN</b>	_____	S. 7
<b>WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN</b>	_____	S. 8 - 9

# PACKUNGSIHALT

## SECRETLAB MAGRGB™ DIFFUSER LED-STREIFEN (SMART LIGHTING EDITION)

X 1



Informationen zur Magnetsicherheit finden Sie auf der Seite „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“.



### ANSCHLUSSKABEL


36 cm

X 1



### STEUERBOX


X 1



### NETZTEIL

Typ A / C / G / I

X 1



# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**Modelle:** NL72S2N15, NL72S2N17

**Modelle:** NL72S2E15, NL72S2E17

**Maße:** 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

### Nennleistung:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

**Dimmen:** 1%-100% mit Nanoleaf App

**Enthält FCC-ID:** 2AC7Z-ESPC6WR00M1

**Enthält IC:** 21098-ESPC6WR00M1

**Eingangsspannung:** 120V AC, 60Hz

**Eingangsspannung:** 100-240V~, 50/60Hz



### Hersteller

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

### Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain


### Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France


[support@secretlab.co](mailto:support@secretlab.co)

# MONTAGE


- 1** Stellen Sie fest, auf welcher Seite des Schreibtisches Sie leichteren Zugang zu einer Steckdose haben. Secretlab MAGRGB™ kann von beiden Enden des Lichtstreifens mit Strom versorgt werden.




- 2** Das Kabel in den Anschluss am Lichtstreifen stecken. Sicherstellen, dass das Kabel vollständig mit dem Anschluss verbunden ist.




- 3** Die hintere Klappe des Secretlab MAGNUS Metallschreibtisches anheben.




- 4** Die durchsichtige Seite des Secretlab MAGRGB™ Streifens zur Rückseite des Schreibtisches wenden.



- 5** Das Ende des Streifens an der Seite des Schreibtisches ausrichten und den Endverbinder magnetisch an der Unterseite des Schreibtisches befestigen.




- 6** Die verbleibende Länge des Secretlab MAGRGB™ Streifens an der Unterseite des Schreibtisches befestigen und darauf achten, dass alle eingebetteten Magnete einrasten.




# MONTAGE

- 7** Das Anschlusskabel am Lichtstreifen und den 12V DC Stecker am Adapter mit dem Controller verbinden.  
Den Adapter in eine passende Steckdose stecken.



- 8** Die Einschalttaste am Controller drücken, um Secretlab MAGRGB™ mit Strom zu versorgen.  
Bereit für die Kopplung mit dem Smartphone.





# APP HERUNTERLADEN



Zum Herunterladen der Nanoleaf Mobile App auf das Smartphone die jeweiligen QR-Codes scannen.



## Nanoleaf Desktop App


Um die Funktion Screen Mirror zu nutzen, bitte die Nanoleaf Desktop App auf den Computer herunterladen:

<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>

Die Desktop App erfordert mindestens Windows 10 oder macOS 12.

**Um einen reibungslosen Kopplungsvorgang zu gewährleisten, bitte sicherstellen, dass die folgenden Dinge bereit sind:**

- iOS oder Android Gerät samt Bluetooth und WiFi (2,4 GHz) ist EINGESCHALTET.
- iOS 15.4+ oder Android 9+.
- Pairing-Code auf der Rückseite des Controllers.




# SECRETLAB MAGRGB™ KOPPELN


- 1 Die Nanoleaf App auf dem Smartphone durch Scannen des QR-Codes laden.



- 2 Die Registerkarte **MEHR** wählen.



- 3 Die Registerkarte „Meine Geräte“ wählen, auf „+“ tippen, um ein neues Gerät hinzuzufügen, die Kamera wird dann automatisch geöffnet.




- 4 Zum Koppeln kann der Kopplungs-QR-Code gescannt oder der Kopplungscode manuell eingegeben werden.

- 5 Wenn der Kopplungs-Code manuell eingegeben wird, „Secretlab MAGRGB™“ als Produkt wählen, auf „Verbinden“ klicken und den Kopplungscode eingeben.


- 6 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, ist das Produkt verbunden und einsatzbereit!

## SECRETLAB MAGRGB™ STEUERN (STEUERBOX)



## SECRETLAB MAGRGB™ STEUERN (NANOLEAF APP)

Die Beleuchtung ein- und ausschalten, Helligkeit steuern, Lichter nach Heim und Raum gruppieren, Szenen erstellen und verwenden und vieles mehr.




### DASHBOARD

Alle Räume und Geräte ganz einfach auf einen Blick ansehen.



### ANPASSEN

Secretlab MAGRGB™ personalisieren. Aus einer großen Auswahl an Farben und Szenen auswählen oder eigene erstellen.



### ERFAHREN

Zugriff auf hilfreiche Informationen, darunter Tutorials, neue Gerätefunktionen und mehr erhalten.

## OPTIONEN ZUM ZURÜCKSETZEN

Bei Problemen mit dem Secretlab MAGRGB™, folgende Schritte befolgen:

### 1) AUS-/EINSCHALTEN

Lichtstreifen aus- und wieder einschalten, indem Sie ihn von der Steckdose trennen und wieder anschließen.

### 2) WLAN

Das WLAN aus- und wieder einschalten. Alternativ die App, mit der die Beleuchtung gesteuert wird, oder das Gerät neu starten.

### 3) STROMVERSORGUNG PRÜFEN

Sicherstellen, dass der Netzschalter an der Steckdose oder der Steckerleiste eingeschaltet ist.

### 4) ZURÜCKSETZEN

Dadurch werden die Kopplungs- und Netzwerkinformationen gelöscht, sodass die Kopplung erneut durchgeführt werden muss.

Vor dem Zurücksetzen Secretlab MAGRGB™ aus der Nanoleaf App löschen durch navigieren zu Mehr > Meine Geräte > bei Secretlab MAGRGB™ nach links Wischen > Löschen.

Um Secretlab MAGRGB™ auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, die Ein-/Aus-Taste am Controller 10 Sekunden lang gedrückt halten.

Wenn das Zurücksetzen erfolgreich war, blinkt der Lichtstreifen dreimal rot, bevor er erlischt. Er ist dann wieder zum Koppeln bereit.



Wenn alle diese Schritte ausgeführt wurden und das Problem weiterhin besteht, bitte für weitere Unterstützung an unser Supportteam wenden.

# WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die ideale Betriebstemperatur liegt zwischen 0°C und 40°C und unter 95% relativer Luftfeuchtigkeit. Nicht in vollständig geschlossenen Vorrichtungen verwenden. Das Produkt ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen und nicht wasserdicht.

Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um elektrische Gefahren oder Brandgefahr zu vermeiden. In diesem Produkt wird eine nicht austauschbare Lichtquelle verwendet. Wenn die Lichtquelle beschädigt ist, die Lampe bitte nicht selbst zerlegen. Den Typ-C-Anschluss dieses Produkts nicht an den USB-Anschluss eines anderen Produkts oder Adapters anpassen. Dies kann dazu führen, dass das Produkt unbrauchbar wird.

## SICHERHEITSINFORMATIONEN MAGNET

### **WARNUNG:**

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die dabei helfen, Neodym-Magnete richtig zu handhaben und Verletzungen sowie Schäden an den Magneten selbst zu vermeiden. Vor der Installation und Verwendung alle folgenden Sicherheitsinformationen lesen.

### **Handhabung**

Beim Anbringen von Teilen mit Neodym-Magneten vorsichtig vorgehen, damit sie nicht eingeklemmt werden. Neodym-Magnete sind außerdem spröde. Harte Stöße vermeiden, um ein Zerbrechen zu verhindern. Zerbrochene Teile vorsichtig entsorgen, da sie scharfkantig sein können.

### **Magnete von Kindern und Haustieren fernhalten**

Um schwere Verletzungen durch Verschlucken von Magneten zu vermeiden, Magnete, die klein genug sind, um verschluckt zu werden, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Kleine Magnete können auch eine Erstickengefahr darstellen. Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn Magnete verschluckt oder eingeatmet wurden.

### **Magnetische Medien**

Von Geräten und Produkten fernhalten, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können (z. B. Computerfestplatten, Kreditkarten und Kassetten).

### **Medizinische Geräte**

Neodym-Magnete können Herzschrittmacher und andere implantierte medizinische Geräte stören. Wir empfehlen, einen Arzt und den Hersteller des medizinischen Geräts zu konsultieren, um spezifische Informationen zu dem medizinischen Gerät zu erhalten und zu erfahren, ob ein Mindestabstand zwischen dem medizinischen Gerät und unserem Produkt eingehalten werden muss.

### **Allergien**

Den Kontakt mit Neodym-Magneten vermeiden, wenn eine Nickelallergie besteht.

### **Bearbeitung und Bohren**

Nicht in die Magnete bohren und nicht versuchen, sie zu verändern, da Neodym-Magnetstaub und -pulver leicht entflammbar sind.

### **Wartung**

Bei richtiger Handhabung, Verwendung und Schutz behalten Neodym-Magnete ihren Magnetismus und ihre Integrität über Jahrzehnte.

# WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

## FCC- und ID-IC-WARNUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Vorschriften:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Das Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen können, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht (was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den des Empfängers anschließen.
- An den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker wenden.

## FUNKFREQUENZ

Bluetooth: 2400–2483,5 MHz  $\leq 20$  dBm; WLAN: 2412 MHz–2462 MHz  $\leq 20$  dBm (NA, CA, IL);

WLAN: 2412 MHz–2472 MHz  $\leq 20$  dBm (CN, EU, AU, KR, JP, SG usw.)

## CE-ERKLÄRUNG

NanoGrid Limited (Nanoleaf) erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung ist unter [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/) verfügbar.

## UKCA-ERKLÄRUNG

NanoGrid Limited (Nanoleaf) erklärt hiermit, dass dieses Gerät den Produkthanforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Die Konformitätserklärung ist unter [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/) verfügbar.

## ENTSORGUNG DES ALTEN PRODUKTS

Das Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn dieses durchgestrichene Mülltonnensymbol an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Bitte über das lokale Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte informieren. Bitte gemäß den örtlichen Vorschriften handeln und alte Produkte nicht im normalen Hausmüll entsorgen. Die ordnungsgemäße Entsorgung des alten Produkts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

## RECHTLICHER HINWEIS

Die Verwendung des „Works with Apple“-Abzeichens bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für die im Abzeichen angegebene Technologie entwickelt wurde und vom Entwickler als den Apple-Leistungsstandards entsprechend zertifiziert wurde. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Konformität mit Sicherheits- und Regulierungsstandards verantwortlich.



**Secretlab MAGRGB™ Diffus LED Strip  
Smart Lighting Edition**

## **BRUGERVEJLEDNING**


<b>PAKKENS INDHOLD</b>	_____	Pg. 1
<b>PRODUKTSPECIFIKATIONER</b>	_____	Pg. 1
<b>INSTALLATION</b>	_____	Pg. 2 - 3
<b>DOWNLOAD APPEN</b>	_____	Pg. 4
<b>PARRING AF DIN SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 5
<b>STYRING AF DIN SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 6
<b>FEJL OG LØSNINGER</b>	_____	Pg. 7
<b>ADVARSLER OG BEMÆRKNINGER</b>	_____	Pg. 8 - 9



# PAKKENS INDHOLD

## SECRETLAB MAGRGB™ DIFFUS LED STRIP (SMART LIGHTING EDITION)


X 1



## TILSLUTNINGSKABEL


36 cm

X 1



## STYREBOKS


X 1



## STRØMADAPTER

Type A/C/G/I

X 1



# PRODUKTSPECIFIKATIONER

**Modeller:** NL72S2N15, NL72S2N17

**Forsyningsspænding:** 120V AC, 60Hz

**Modeller:** NL72S2E15, NL72S2E17

**Forsyningsspænding:** 100-240V~, 50/60Hz

**Dimensioner:** 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

### Nominal effekt:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

**Dæmpning:** 1%-100% with Nanoleaf App

**Indeholder FCC ID:** 2AC7Z-ESPC6WROOM1

**Indeholder IC:** 21098-ESPC6WROOM1



### Producent

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

### Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain


### Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France


[support@secretlab.co](mailto:support@secretlab.co)

# INSTALLATION


- 1** Bestem, hvilken side af dit skrivebord hvor der er nemmest adgang til en stikkontakt. Secretlab MAGRGB™ kan forsynes fra begge ender.




- 2** Indsæt forsyningskablet i konnektoren på din led strip. Kontroller at kablet er helt indsat i konnektoren.




- 3** Løft bagdækslet på dit Secretlab MAGNUS metalbord.




- 4** Vend den gennemsigtige side af dit Secretlab MAGRGB™ led strip mod bagsiden af bordet.



- 5** Flugt enden af din led strip med enden af dit bord og fastgør endestikket magnetisk på undersiden af dit bord.




- 6** Fastgør den resterende længde af Secretlab MAGRGB™ led strip til undersiden af bordet og kontroller løbende, at hver af de indlejrede magneter klikkes på plads.




# INSTALLATION

- 7** Tilslut forsyningskablet og 12V DC stikket på adapteren til styreboksen.  
Tilslut adapteren til en stikkontakt.




- 8** Tryk på tænd/sluk-knappen på styreboksen for, at tænde dit Secretlab MAGRGB™. Du er nu klar til at parre den med din smartphone.



# DOWNLOAD APPEN



Scan den respektive QR kode for, at downloade Nanoleaf appen på dit smartphone.



## Nanoleaf Desktop App


For at bruge Screen Mirror-funktionen skal du downloade Nanoleaf desktop appen på din computer ved at besøge følgende link:

**<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>**

Desktop appen kræver mindst Windows 10 eller macOS 12.

**For at sikre en nem parringsprocess, skal du kontrollere at du har følgende ting klar:**

- Din iOS eller Android-enhed med Bluetooth og Wifi (2.4GHz) er tændt.
- Kræver iOS 15.4+ eller Android 9+.
- Parringskoden fra bagsiden af styreboksen.




# PARRING AF DIN SECRETLAB MAGRGB™


**1** Download og åbn Nanoleaf appen på din smartphone ved at scanne QR koderne.



**2** Klik på fanen **MORE**



**3** Klik på "My Devices" fanen, klik på "+" for at tilføje en ny enhed og kameraet vil automatisk åbne.




**4** Du kan vælge at scanne parrings QR-koden, eller indtaste parringskoden manuelt.

**5** Hvis du vælger at indtaste koden manuelt, skal du vælge "Secretlab MAGRGB™" som produkt og klik herefter "Pair" og indtast parringskoden.


**6** Når parringen er færdig, er dit produkt forbundet og klar til brug!

## STYRING AF DIN SECRETLAB MAGRGB™ (STYREBOKS)



## STYRING AF DIN SECRETLAB MAGRGB™ (NANOLEAF APPEN)

Sluk og tænd lyset, indstil lysstyrken, gruppebelysning efter hjem og rum, skab og brug scener og meget mere.




### HOVEDMENU

Se nemt alle dine rum og enheder.



### TILPAS

Gør dit Secretlab MAGRGB™ til dit eget. Vælg mellem et lang række farver og scener, eller skab dit eget.



### EXPLORE

Få adgang til brugbare informationer såsom vejledninger, nye enhedsfunktioner og mere.

## NULSTIL INDSTILLINGER

Hvis du oplever nogen fejl med dit Secretlab MAGRGB™, kan du prøve disse trin:

### 1) GENSTART

Genstart din LED strip ved, at stikket ud af stikkontakten og derefter tilslutte det igen.

### 2) WiFi

Genstart dit WiFi modem. Alternativt kan du genstarte appen du bruger til, at kontrollere dit lys med eller genstarte enheden.

### 3) KONTROLLER STRØMKILDEN

Kontroller at strømmen ikke er slukket ved stikkontakten eller styreboksen

### 4) FORETAG EN NULSTILLING

Dette vil slette din parrede enheder og netværksinformationer, så du skal parre dem igen. Før du nulstiller skal du slette dit Secretlab MAGRGB™ from Nanoleaf appen ved, at gå til More > My Devices > Swipe til venstre ved dit Secretlab MAGRGB™ > Delete.

For at foretage en fabriksnulstilling på dit Secretlab MAGRGB™, skal du trykke og holde på styreboksens tænd/sluk knap i 10 sekunder. Hvis nulstillingen er gennemført korrekt, vil din LED strip blinke rødt tre gange, før den slukkes helt. Den er nu klar til parring igen.



Hvis du har gennemført alle trinene og stadig oplever problemer, skal du kontakte vores kundeservice for yderligere hjælp.

# ADVARSLER OG BEMÆRKNINGER

Den ideelle driftstemperaturer spænder fra 0-40°C <95RH%. Må ikke bruges i helt lukket armatur. Produktet er kun designet til indendørs brug og er ikke vandtæt.

Hvis dette armaturs eksterne fleksible kabel eller ledning er beskadiget, må det udelukkende udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for, at undgå en elektrisk fare eller brandfare. Ikke-udskiftelige lyskilder bruges i dette produkt. Hvis lyskilderne er beskadiget, må du ikke selv skille lampen ad. Tilslut ikke Type C-headeren på dette produkt med USB-headeren på noget andet produkt eller adapter. Dette kan medføre, at dit produkt bliver ubrugeligt.

## SIKKERHEDSINFORMATIONER OM MAGNETERNE

### ADVARSEL:

Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger for at hjælpe dig med at håndtere neodymmagneter korrekt og undgå personskade og beskadigelse af selve magneterne. Læs alle sikkerhedsoplysningerne nedenfor før installation og brug.

### Håndtering

Udvis forsigtighed når du fastgører dele med neodymmagneter for at undgå at blive klemt. Neodymmagneter er hårdføre, men kan nemt gå i stykker. Undgå at udsætte dem for hårde stød for at forhindre brud. Hvis magneterne går i stykker, skal de bortskaffes med forsigtighed, da de kan være skarpe.

### Hold magneterne væk fra børn og kæledyr

For at forhindre alvorlige skader ved indtagelse af magneter skal du opbevare magneter, der er små nok til at blive slugt væk fra børn og kæledyr. Små magneter kan også udgøre en kvælningsfare. Søg omgående lægehjælp, hvis magneter sluges.

### Magnetiske enheder

Hold magneterne væk fra enheder og produkter, der kan blive beskadiget af stærke magnetiske felter (f.eks. computerharddiske, betalingskort og kassettebånd).

### Medicinske apparater

Neodymmagneter kan forstyrre pacemakere og andet implanteret medicinsk udstyr. Vi anbefaler, at du konsulterer din læge og producenten af medicinsk udstyr for at få oplysninger, der er specifikke for dit medicinske udstyr og om du skal holde en minimumsafstand mellem dit medicinske udstyr og vores produkt.

### Allergier

Undgå kontakt med neodymmagneter, hvis du har nikkelallergi.

### Bearbejdning med maskiner

Forsøg ikke at modificere magneterne, da neodymmagneter støver og pulveret er meget brandfarligt.

### Vedligeholdelse

Neodymmagneter bevarer deres magnetisme og integritet i årtier, når de håndteres, bruges og beskyttes korrekt.



# ADVARSLER OG BEMÆRKNINGER

## FCC OG ID IC ADVARSEL

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

## RADIO FREKVENNS

Bluetooth: 2400-2483.5 MHz  $\leq$ 20dBm; Wi-Fi: 2412MHz-2462 MHz  $\leq$ 20dBm (NA, CA, IL);

Wi-Fi: 2412MHz-2472 MHz  $\leq$ 20dBm (CN, EU, AU, KR, JP, SG, etc)

## CE ERKLÆRING

NanoGrid Limited (Nanoleaf) erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## UKCA ERKLÆRING

NanoGrid Limited (Nanoleaf) erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med produktkravene og andre relevante bestemmelser i Radio Equipment Regulations 2017. Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## BORTSKAFFELSE AF DIT GAMLE PRODUKT

Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genbruges. Når dette symbol med en overstreget skraldespand er knyttet til et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU. Undersøg hvor dit nærmeste lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter er. Handl venligst i overensstemmelse med dine lokale regler og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit normale husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit gamle produkt hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## JURIDISK MEDDELELSE

Brug af Works with Apple mærket betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der er identificeret på emblemet, og er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovmæssige standarder.



**Secretlab MAGRGB™ Tira de LED difusa**  
**Edición Smart Lighting**

# **MANUAL DE USUARIO**

<b>CONTENIDO DEL PAQUETE</b>	_____	Pg. 1
<b>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO</b>	_____	Pg. 1
<b>INSTALACIÓN</b>	_____	Pg. 2 - 3
<b>DESCARGAR LA APLICACIÓN</b>	_____	Pg. 4
<b>EMPAREJAMIENTO DE TU SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 5
<b>CONTROL DE TU SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 6
<b>PROBLEMAS Y SOLUCIONES</b>	_____	Pg. 7
<b>ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES</b>	_____	Pg. 8 - 9

## CONTENIDO DEL PAQUETE

### SECRETLAB MAGRGB™ TIRA DE LED DIFUSA (SMART LIGHTING EDITION)

X 1



Consulta la página Advertencias y precauciones para obtener información sobre la seguridad de los imanes.

### CABLE CONECTOR


36 cm

X 1



### CAJA DEL CONTROLADOR


X 1



### ADAPTADOR DE CORRIENTE

Tipo A/C/G/I

X 1



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**Modelos:** NL72S2N15, NL72S2N17

**Tensión de entrada:** 120V AC, 60Hz

**Modelos:** NL72S2E15, NL72S2E17

**Tensión de entrada:** 100-240V~, 50/60Hz

**Dimensiones:** 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

### Potencia nominal:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

**Regulación:** 1%-100% with Nanoleaf App

**Contiene el ID de la FCC:** 2AC7Z-ESPC6WROOM1

**Contiene IC:** 21098-ESPC6WROOM1



### Fabricante

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

### Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain

### Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France


[support@secretlab.co](mailto:support@secretlab.co)

# INSTALACIÓN


- 1** Determina qué lado de tu escritorio ofrece más facilidad acceso a una toma de corriente. Secretlab MAGRGB™ puede alimentarse desde cualquiera de los extremos de la tira de luces.




- 2** Inserta el cable en el conector de la tira de luces. Asegúrate de que el cable está completamente conectado con el conector.




- 3** Levanta la tapa trasera de tu escritorio metálico Secretlab MAGNUS.




- 4** Coloca el lado translúcido de tu tira Secretlab MAGRGB™ hacia la parte trasera del escritorio.



- 5** Alinea el extremo de la tira con el lateral del escritorio y fija magnéticamente el conector final a la parte inferior del escritorio.




- 6** Fija la longitud restante de la tira Secretlab MAGRGB™ a la parte inferior del escritorio, asegurándote de que cada uno de los imanes incrustados encaja en su sitio.




# INSTALACIÓN

- 7** Conecta el cable conector de la regleta de luces y el de 12 V CC enchufe del adaptador al controlador. Conecta el adaptador a una toma de corriente adecuada.




- 8** Pulsa el botón de encendido del mando para encender tu Secretlab MAGRGB™. Ya está listo para emparejarlo con tu smartphone.



# DESCARGAR LA APLICACIÓN



Para descargar la aplicación móvil de Nanoleaf en tu smartphone, escanea los códigos QR correspondientes.



## Aplicación de escritorio Nanoleaf


Para utilizar la función Screen Mirror, descarga la aplicación de escritorio Nanoleaf en su ordenador entrando al siguiente enlace:

<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>

La aplicación de escritorio requiere como mínimo Windows 10 y macOS 12.

**Para garantizar un proceso de emparejamiento sin problemas, asegúrate de tener preparadas las siguientes cosas:**

- Tu dispositivo iOS o Android con Bluetooth y Wifi (2,4 GHz) está ENCENDIDO.
- Requiere iOS 15.4+ o Android 9+.
- Código de emparejamiento que se encuentra en la parte posterior del mando.




# EMPAREJAMIENTO DE TU SECRETLAB MAGRGB™


- 1 Descarga e inicia la aplicación Nanoleaf en tu smartphone escaneando los códigos QR.



- 2 Selecciona la pestaña **MÁS**.



- 3 Selecciona la pestaña "Mis dispositivos", pulsa el signo "+" para añadir un nuevo dispositivo, y la cámara se abrirá automáticamente.




- 4 Puedes elegir entre escanear el código QR de emparejamiento o introducirlo manualmente.

- 5 Cuando elijas introducir manualmente el código de emparejamiento, selecciona "Secretlab MAGRGB™" como el producto, haz clic en "Emparejar" e introduce el código de emparejamiento.

- 6 Una vez realizado el emparejamiento, el producto debería estar conectado y listo para su uso.




## CONTROL DE TU SECRETLAB MAGRGB™ (CAJA CONTROLADORA)



## CONTROL DE TU SECRETLAB MAGRGB™ (APLICACIÓN NANOLEAF)

Enciende y apaga tu iluminación, controla el brillo, agrupa las luces por casa y por habitación, crea y utiliza escenas, y mucho más.




### TABLERO

Visualiza fácilmente todas tus habitaciones y dispositivos de inmediato.



### PERSONALIZAR

Haz que tu Secretlab MAGRGB™ sea tuya. Elige entre una amplia gama de colores y escenas o crea las tuyas propias.



### EXPLORA

Accede a información útil, como tutoriales, nuevas funciones del dispositivo y mucho más.

## OPCIONES DE REINICIO

Si estás experimentando algún problema con tu Secretlab MAGRGB™, prueba estos pasos:

### 1) CICLO DE ALIMENTACIÓN

Para ello, desenchufa tu tira de la toma de corriente y vuelve a enchufarla.

### 2) WiFi

Apaga y vuelve a encender el WiFi. Alternativamente, reinicia la aplicación que estás utilizando para controlar las luces o reinicia el dispositivo.

### 3) COMPROBAR LA POTENCIA

Asegúrate de que el interruptor de alimentación no está apagado en la toma de corriente o en la barra de alimentación.

### 4) REALIZAR UN REINICIO

Esto borrará la información de emparejamiento y de red, por lo que tendrás que volver a emparejar. Antes de reiniciar, elimina tu Secretlab MAGRGB™ de la aplicación de Nanoleaf accediendo a Más > Mis dispositivos > Desliza a la izquierda en tu Secretlab MAGRGB™ > Eliminar.

Para hacer un reinicio de fábrica de tu Secretlab MAGRGB™, mantén pulsado el botón de encendido/apagado del controlador durante 10 segundos. Si el reinicio se realiza correctamente, la tira luminosa parpadeará en rojo tres veces antes de apagarse. A continuación, estará listo para el emparejamiento de nuevo.



Si has realizado todos estos pasos y el problema persiste, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia para obtener más ayuda.

# ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las temperaturas ideales de funcionamiento oscilan entre 0-40°C <95RH%. No utilizar en instalaciones totalmente cerradas. El producto está diseñado para uso en interiores y no es impermeable.

Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar que suponga un riesgo eléctrico o de incendio. En este producto se utiliza una fuente de luz no sustituible. Si la fuente de luz está dañada, no desmontes la lámpara tú mismo. No hagas coincidir el cabezal Tipo C de este producto con el cabezal USB de ningún otro producto o adaptador. Esto podría inutilizar el producto.

## INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS IMANES

### ADVERTENCIA:

Este manual contiene información de seguridad importante para ayudarte a manipular correctamente los imanes de neodimio y evitar lesiones personales y daños a los propios imanes. Lee toda la información de seguridad que aparece a continuación antes de la instalación y el uso.

### Manejo de

Ten cuidado al fijar piezas con imanes de neodimio para evitar pellizcos. Los imanes de neodimio también son frágiles. Evita someterlos a impactos fuertes para evitar que se rompan. Si se rompen, desecha las piezas con cuidado, ya que pueden estar afiladas.

### Mantén los imanes fuera del alcance de niños y mascotas

Para evitar lesiones graves por ingestión de imanes, mantén los imanes lo suficientemente pequeños como para que puedan tragarse fuera del alcance de niños y mascotas. Los imanes pequeños también pueden suponer un riesgo de asfixia. Busca atención médica inmediata si ingieres o inhalas imanes.

### Soportes magnéticos

Mantente alejado de dispositivos y productos que puedan resultar dañados por campos magnéticos intensos (por ejemplo, discos duros de ordenador, tarjetas de crédito y cintas de casete).

### Productos sanitarios

Los imanes de neodimio pueden interferir con marcapasos y otros dispositivos médicos implantados. Te recomendamos que consultes a tu médico y al fabricante del dispositivo médico para obtener información específica sobre su dispositivo médico y saber si necesitarías mantener una distancia mínima entre su dispositivo médico y nuestro producto.

### Alergias

Evita el contacto con imanes de neodimio si eres alérgico al níquel.

### Mecanizado y taladrado

No taladres ni intentes modificar los imanes, ya que el polvo y los imanes de neodimio son altamente inflamables.

### Mantenimiento

Los imanes de neodimio conservan su magnetismo e integridad durante décadas si se manipulan, utilizan y protegen adecuadamente.

# ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

## ADVERTENCIA FCC e ID IC

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este aparato no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubica la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulta al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

## RADIOFRECUENCIA

Bluetooth: 2400-2483,5 MHz  $\leq$ 20dBm; Wi-Fi: 2412MHz-2462 MHz  $\leq$ 20dBm (NA, CA, IL);

Wi-Fi: 2412MHz-2472 MHz  $\leq$ 20dBm (CN, EU, AU, KR, JP, SG, etc)

## DECLARACIÓN CE

NanoGrid Limited (Nanoleaf) declara por la presente que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad está disponible en [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## DECLARACIÓN DE LA UCCA

NanoGrid Limited (Nanoleaf) declara por la presente que este dispositivo cumple los requisitos del producto y otras disposiciones pertinentes del Reglamento de equipos radioeléctricos de 2017. La declaración de conformidad está disponible en [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO USADO

Tu producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando este símbolo de contenedor de basura tachado aparece en un producto, significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/UE. Infórmate sobre tu sistema local de recogida de productos eléctricos y electrónicos. Actúa de acuerdo con la normativa local y no deseches los productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de tu producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## AVISO LEGAL

El uso del distintivo Works with Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias.



**Bande LED Secretlab MAGRGB™  
Édition Smart Lighting**

# **MANUEL DE L'UTILISATEUR**

<b>CONTENU DU COLIS</b>	_____	Pg. 1
<b>SPÉCIFICITÉS PRODUIT</b>	_____	Pg. 1
<b>INSTALLATION</b>	_____	Pg. 2 - 3
<b>TÉLÉCHARGER L'APPLICATION</b>	_____	Pg. 4
<b>APPAIRER VOTRE SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 5
<b>CONTRÔLER VOTRE SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 6
<b>PROBLÈMES &amp; SOLUTIONS</b>	_____	Pg. 7
<b>AVERTISSEMENTS &amp; MISE EN GARDE</b>	_____	Pg. 8 - 9

# CONTENU DU COLIS

## BANDE LED SECRETLAB MAGRGB™ (ÉDITION SMART LIGHTING)

X 1




Référez-vous à la page avertissements et mise en garde pour les informations de sécurité des aimants.



## CÂBLE CONNECTEUR

36 cm

X 1



## BOÎTIER DE CONTRÔLE


X 1



## ADAPTATEUR SECTEUR

Type A / C / G / I

X 1



# SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

**Modèles:** NL72S2N15, NL72S2N17

**Voltage d'entrée:** 120V AC, 60Hz

**Modèles:** NL72S2E15, NL72S2E17

**Voltage d'entrée:** 100-240V~, 50/60Hz

**Dimensions:** 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

### Puissance nominale:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

**Gradation:** 1%-100% avec l'application Nanoleaf

**Inclusion FCC ID:** 2AC7Z-ESPC6WROOM1

**Inclusion IC:** 21098-ESPC6WROOM1



### Fabriquant

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

### Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain


### Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France


[support@secretlab.co](mailto:support@secretlab.co)

# INSTALLATION


- 1** Déterminez quel côté de votre bureau permet l'accès le plus facile à une prise de courant. La Secretlab MAGRGB™ peut-être alimentée depuis les deux extrémités de la bande lumineuse.




- 2** Insérez le câble dans le connecteur de la bande lumineuse. Assurez-vous que le câble soit complètement branché sur le connecteur.




- 3** Levez le plateau arrière à charnière de votre bureau en métal Secretlab MAGNUS.




- 4** Positionnez la face translucide de votre bande Secretlab MAGRGB™ vers l'arrière de votre bureau.



- 5** Alignez l'extrémité de la bande avec le côté du bureau et attachez magnétiquement le connecteur au dessous du bureau.




- 6** Attachez la longueur restante de la bande Secretlab MAGRGB™ sur le dessous du bureau en vous assurant que chacun des aimants incorporés se clipse en position.






# INSTALLATION

- 7** Connectez le câble connecteur sur la bande lumineuse et la prise 12V DC de l'adaptateur sur le contrôleur. Branchez l'adaptateur dans une prise secteur adaptée.




- 8** Appuyez sur le bouton power du contrôleur pour allumer votre Secretlab MAGRGB™. Vous êtes désormais en mesure de l'appairer avec votre smartphone.



# TÉLÉCHARGER L'APPLI



Pour télécharger l'application mobile Nanoleaf sur votre smartphone, scannez les codes QR respectifs.



## Application de bureau Nanoleaf


Pour utiliser la fonctionnalité diffusion d'écran, veuillez télécharger l'application de bureau Nanoleaf sur votre ordinateur en suivant le lien suivant :

<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>

L'application de bureau nécessite au minimum Windows 10 ou macOS 12.

**Pour garantir un procédé d'appairage fluide, assurez-vous d'avoir à portée de main les éléments suivants :**

- Votre appareil iOS ou Android avec Bluetooth et Wifi (2.4GHz) allumés.
- Nécessite iOS 15.4+ ou Android 9+.
- Le code d'appairage qui se trouve à l'arrière du contrôleur.




# APPAIRER VOTRE SECRETLAB MAGRGB™


- 1 Téléchargez et lancez l'App Nanoleaf sur votre smartphone en scannant les codes QR.



- 2 Sélectionnez l'onglet **AUTRES**



- 3 Sélectionnez l'onglet "Mes appareils", appuyez sur "+" pour ajouter un nouvel appareil, et la caméra s'ouvrira automatiquement.




- 4 Vous pouvez choisir de scanner le code QR d'appairage, ou de rentrer le code manuellement.

- 5 Si vous choisissez d'entrer manuellement le code d'appairage, sélectionnez comme produit "Secretlab MAGRGB™", puis cliquez sur "Connecter" et entrez le code d'appairage.


- 6 Une fois l'appairage terminé, votre produit devrait être connecté et prêt à l'usage !

## CONTRÔLER VOTRE SECRETLAB MAGRGB™ (BOÎTIER DE CONTRÔLE)



## CONTRÔLER VOTRE SECRETLAB MAGRGB™ (APPLI NANOLEAF)

Allumez et éteignez votre éclairage, contrôlez la luminosité, vos groupes de lampes par maison et par chambre, créez et utilisez des scènes, et bien plus encore.




### TABLEAU DE BORD

Visualisez facilement toutes vos pièces et tous vos appareils en un simple regard.



### PERSONNALISATION

Appropriiez-vous votre Secretlab MAGRGB™. Choisissez parmi une vaste variété de couleurs et de scènes, ou bien créez les vôtres.



### EXPLORER

Accédez à des informations utiles telles que des tutoriels, de nouvelles fonctionnalités et plus encore.

## OPTIONS DE RÉINITIALISATION

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Secretlab MAGRGB™, essayez de suivre ces étapes :

### 1) CYCLE D'ALIMENTATION

Débranchez votre bande lumineuse de la prise secteur puis re-branchez la à nouveau.

### 2) WiFi

Désactivez puis réactivez votre WiFi. Une autre alternative est de relancer l'application que vous utilisez pour contrôler vos éclairages, ou de redémarrer votre appareil.

### 3) VÉRIFIER L'ÉLECTRICITÉ

Assurez-vous que la prise, multiprise ou bloc d'alimentation soit bien sous tension.

### 4) PROCÉDEZ À UNE RÉINITIALISATION

Cela supprimera votre information d'appairage et de réseau et vous devrez donc faire l'appairage à nouveau. Avant de réinitialiser, supprimez votre Secretlab MAGRGB™ de l'application Nanoleaf en allant dans Plus > Mes Appareils > Glissez vers la gauche sur Secretlab MAGRGB™ > Supprimer.

Pour procéder à une réinitialisation usine de votre Secretlab MAGRGB™, appuyez et maintenez appuyé le bouton Power ON/OFF du contrôleur pendant 10s. Si la réinitialisation fonctionne, la bande lumineuse clignotera rouge trois fois, avant de s'éteindre. Elle sera alors prête pour un nouvel appairage.



Si vous avez procédé à toutes ces étapes et que les problèmes persistent, veuillez contacter notre équipe de support technique pour une assistance supplémentaire.

# AVERTISSEMENTS ET MISE EN GARDE

La température idéale d'utilisation varie de 0-40°C <95RH%. Ne pas utiliser dans un espace intégralement fermé. Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement et n'est pas résistant à l'eau.

Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé uniquement par le fabricant, un de ses agents, ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger électrique ou risque d'incendie. Une source de lumière non-remplaçable est incluse dans ce produit. Si la source lumineuse est endommagée, veuillez ne pas démonter le luminaire vous-même. Ne remplacez pas la tête Type C de ce produit avec le port USB C d'un autre produit ou adaptateur. Cela pourrait rendre le produit inutilisable.

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ AIMANTS

### AVERTISSEMENT :

Ce manuel contient des informations importantes de sécurité pour vous aider à manipuler les aimants néodymes correctement et éviter toute blessure personnelle ou dommages envers les aimants eux-mêmes. Lisez bien toutes les informations de sécurité avant installation et utilisation.

### Manipulation

Faites attention en attachant les parties à aimants néodymes pour éviter tout pincement. Les aimants néodymes sont également fragiles. Évitez de les soumettre à des chocs ou impacts pour éviter la casse. En cas de casse, débarrassez-vous soigneusement des morceaux car ils peuvent être coupants.

### Gardez les aimants à l'écart des enfants et animaux

Pour éviter des blessures sérieuses liées à l'ingestion d'aimants, gardez les aimants suffisamment petits pour être avalés à l'écart des enfants ou des animaux. Les petits aimants peuvent également représenter un danger d'étouffement. Consultez une aide médicale immédiatement en cas d'ingestion ou inhalation des aimants.

### Media Magnétiques

Gardez à l'écart des appareils et produits qui peuvent être endommagés par des champs magnétiques puissants (p.ex disques durs, cartes de crédit et cassettes).

### Appareils médicaux

Les aimants néodymes peuvent interférer avec les pacemakers et autres appareils médicaux implantables. Nous recommandons de consulter votre praticien et le fabricant de l'appareil médical pour avoir des informations spécifiques sur votre appareil, et si oui ou non vous devriez maintenir une distance minimum entre notre produit et votre appareil médical.

### Allergies

Évitez le contact avec les aimants néodymes si vous êtes allergiques au nickel.

### Usinage et Perçage

N'essayez pas de percer ou modifier les aimants car la poussière et la poudre d'aimant néodyme sont hautement inflammables.

### Entretien

Les aimants néodymes conservent leur intégrité et magnétisme pendant des décennies lorsqu'ils sont manipulés, utilisés et protégés correctement.

# AVERTISSEMENTS ET MISE EN GARDE

## AVERTISSEMENT FCC et ID IC

Cet appareil se conforme à l'article 15 des réglementations FCC. La manipulation est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence dommageable.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui pourraient causer une opération non souhaitée.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient lever le droit de l'utilisateur de manipuler l'équipement. Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de l'article 15 des réglementations FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dommageables dans une installation résidentielle. Cet équipement peut émettre une énergie de fréquence radio et, si installé et utilisé en non-conformité avec ses instructions, peut causer des interférences dommageables aux communications radio. Cependant, il est toujours possible qu'il y ait lieu d'une interférence venant d'une installation en particulier. Si cet équipement est la source d'une interférence dommageable à la réception d'une radio ou d'une télévision, ce qui peut-être déterminé en allumant/éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Déplacer ou réorienter l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise appartenant à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté.

## FRÉQUENCE RADIO

Bluetooth: 2400-2483.5 MHz ≤20dBm; Wi-Fi: 2412MHz-2462 MHz ≤20dBm (NA, CA, IL);  
Wi-Fi: 2412MHz-2472 MHz ≤20dBm (CN, EU, AU, KR, JP, SG, etc)

## DÉCLARATION CE

NanoGrid Limited (Nanoleaf) déclare par la présente que cet appareil est conforme aux pré-requis essentiels et autres provisions appropriées de la Directive 2014/53/EU. Cette déclaration de conformité est disponible sur [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## DÉCLARATION UKCA

NanoGrid Limited (Nanoleaf) déclare par la présente que cet appareil est conforme aux pré-requis essentiels et autres provisions appropriées de Radio Equipment Regulations 2017. Cette déclaration de conformité est disponible sur [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## DISPOSITION DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

Votre produit est conçu et fabriqué avec des composants et matériaux de haute-qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Lorsque ce symbole de poubelle barrée se trouve sur un produit, cela signifie que ce produit est couvert par la Directive Européenne 2012/19/EU. Veuillez-vous renseigner sur votre système local de récupération pour les produits électriques et électroniques. Vous êtes priés d'agir en accord avec les réglementations locales et de ne pas jeter vos anciens produits avec vos ordures ménagères. L'élimination correcte de vos anciens produits aide à prévenir de possibles conséquences négatives pour l'environnement et la santé des personnes.

## NOTICE LÉGALE

L'utilisation du badge "fonctionne avec Apple" signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée par le badge et est certifié par le développeur d'être conforme aux standards de performance Apple. Apple n'est pas responsable de l'utilisation de cet appareil ou de sa conformité avec les règles de sécurité et les réglementations standard applicables.



**Secretlab MAGRGB™ Striscia LED Diffusa**  
**Edizione Illuminazione Smart**

## **MANUALE UTENTE**



<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	_____	Pg. 1
<b>SPECIFICHE DEL PRODOTTO</b>	_____	Pg. 1
<b>INSTALLAZIONE</b>	_____	Pg. 2 - 3
<b>DOWNLOAD DELL'APP</b>	_____	Pg. 4
<b>ACCOPIARE LA SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 5
<b>CONTROLLO DELLA SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 6
<b>PROBLEMI E SOLUZIONI</b>	_____	Pg. 7
<b>AVVERTENZE E PRECAUZIONI</b>	_____	Pg. 8 - 9

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

**SECRETLAB MAGRGB™**  
**STRISCIA LED DIFFUSA**  
(EDIZIONE ILLUMINAZIONE SMART)

X 1




Refer to the Avvertenze e Precauzioni page for magnet safety information.



**CAVO CONNETTORE**

36 cm  
X 1




**SCATOLA DI CONTROLLO**

X 1



**ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE**

Tipo A / C / G / I  
X 1



# SPECIFICHE DEL PRODOTTO

**Modelli:** NL72S2N15, NL72S2N17

**Tensione in ingresso:** 120V AC, 60Hz

**Modelli:** NL72S2E15, NL72S2E17

**Tensione in ingresso:** 100-240V~, 50/60Hz

**Dimensioni:** 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

**Potenza nominale:**

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

**Dimmerazione:** 1%-100% with Nanoleaf App

**Contiene FCC ID:** 2AC7Z-ESPC6WROOM1

**Contiene IC:** 21098-ESPC6WROOM1



**Produttore**

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

**Nanoleaf Canada**

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

**Nanoleaf Europe SAS**

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain

**Nanoleaf Europe SAS**

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France


[support@secretlab.co](mailto:support@secretlab.co)

# INSTALLAZIONE


- 1** Determinare quale lato della scrivania fornisce un accesso più facile a una presa elettrica. La Secretlab MAGRGB™ può essere alimentata da entrambe le estremità della striscia.




- 2** Inserire il cavo nel connettore sulla striscia. Assicurarsi che il cavo sia collegato saldamente al connettore.




- 3** Sollevare la copertura incernierata della Secretlab MAGNUS Metal Desk.




- 4** Posizionare il lato trasparente della striscia Secretlab MAGRGB™ verso il retro della scrivania.



- 5** Allineare l'estremità della striscia con il lato della scrivania e fissare magneticamente l'estremità del connettore al fondo della scrivania.




- 6** Fissare la parte restante della striscia Secretlab MAGRGB™ al fondo della scrivania, assicurandosi che tutti i magneti integrati siano attaccati e saldi.




# INSTALLAZIONE

- 7** Collegare il cavo connettore alla striscia e la presa da 12V DC dell'adattatore al controllo. Collegare l'adattatore a una presa elettrica adatta.




- 8** Premere il pulsante di accensione sul controllo per avviare la Secretlab MAGRGB™. Ora è pronta per essere accoppiata allo smartphone.



## DOWNLOAD DELL'APP



Per scaricare l'app mobile di Nanoleaf sullo smartphone, scansionare i rispettivi codici QR.



### App Desktop Nanoleaf


Per utilizzare la funzione Screen Mirror, scaricare sul computer l'app desktop di Nanoleaf andando al seguente link:

<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>

L'app desktop necessita di Windows 10 e macOS 12 come versioni minime.

**Per assicurare un processo agevole di accoppiamento, assicurarsi di avere già pronte le seguenti cose:**

- Dispositivo iOS o Android con Bluetooth e Wi-fi (2.4GHz) attivi.
- Necessita di iOS 15.4+ o Android 9+.
- Il Codice di Accoppiamento che si trova sul retro del controllo.




# ACCOPIARE LA SECRETLAB MAGRGB™


- 1** Scaricare e avviare l'app Nanoleaf sullo smartphone scansionando i codici QR.



- 2** Selezionare la scheda **DI PIÙ**.



- 3** Selezionare la scheda "I miei dispositivi", cliccare su "+" per aggiungere un nuovo dispositivo, e la fotocamera si attiverà automaticamente.




- 4** È possibile scegliere di scansionare il codice QR di accoppiamento o inserirlo manualmente per farlo accoppiare.

- 5** Quando si sceglie di inserire manualmente il codice di accoppiamento, selezionare "Secretlab MAGRGB™" come prodotto, poi cliccare su "Accoppia" e inserire il codice di accoppiamento.


- 6** Una volta terminato l'accoppiamento, il prodotto sarà connesso e pronto a essere utilizzato!

## CONTROLLO DELLA SECRETLAB MAGRGB™ (SCATOLA DI CONTROLLO)



## CONTROLLO DELLA SECRETLAB MAGRGB™ (APP NANOLEAF)

Accendere e spegnere le luci, controllare la luminosità, raggruppare le luci per casa e per stanza, creare e usare Ambienti, e altro ancora.




### CRUSCOTTO

Panoramica semplice su tutte le stanze e i dispositivi con una rapida occhiata.



### PERSONALIZZARE

Personalizzare la Secretlab MAGRGB™. Scegliere tra una vasta gamma di colori e Ambienti o creare i propri.



### ESPLORARE

Accedere a informazioni utili come tutorial, nuove funzionalità del dispositivo, e altro ancora.

## OPZIONI DI RESET

In caso di problemi con la Secretlab MAGRGB™, provare con questi passaggi:

### 1) SPEGNERE E RIACCENDERE

Spegnere e riaccendere la striscia scollegandola dalla presa di corrente e, dopo, ricollegandola.

### 2) Wi-Fi

Disattivare il Wi-Fi e riattivarlo. In alternativa, riavviare l'app utilizzata per gestire le luci o riavviare il dispositivo.

### 3) CONTROLLARE L'ALIMENTAZIONE

Assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione non sia impostato su spento.

### 4) ESEGUIRE UN RESET

Questo procedimento cancellerà tutte le informazioni riguardo accoppiamento e rete, quindi sarà necessario accoppiare di nuovo il dispositivo.

Prima del reset, eliminare la Secretlab MAGRGB™ dall'app Nanoleaf cliccando su Di più > I miei dispositivi > Scorri a sinistra sulla tua Secretlab MAGRGB™ > Elimina.

Per tornare alle impostazioni di fabbrica della Secretlab MAGRGB™, tenere premuto per 10 secondi il pulsante di Alimentazione ON/OFF sul Controllo. Se il reset sarà andato a buon fine, la striscia lampeggerà per tre volte con luce rossa prima di spegnersi. Allora sarà pronta per essere accoppiata di nuovo.



Se una volta eseguiti tutti questi passaggi il problema persistesse, consigliamo di contattare il nostro team di assistenza per ulteriore supporto.



# AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La temperatura operativa ideale si aggira tra 0-40°C <95RH%. Non utilizzare in apparecchi completamente chiusi. Il prodotto è progettato solo per l'utilizzo in ambienti chiusi e non è impermeabile.

Se lo strato esterno del cavo flessibile o del filo della striscia fosse danneggiato, questo può essere sostituito solo dal produttore o da suoi agenti di servizio o da una persona similmente qualificata, per evitare di creare un pericolo di incendio o di elettrocuzione. La fonte luminosa utilizzata nel prodotto non è sostituibile. Se la fonte luminosa fosse danneggiata, non smontare la striscia. Non abbinare l'USB di Tipo C del prodotto con l'entrata USB generica di altri prodotti o adattatori. Questo potrebbe rendere il prodotto inutilizzabile.

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA DEL MAGNETE

### ATTENZIONE:

Questo manuale contiene importanti informazioni di sicurezza che aiutano a maneggiare al meglio i magneti al neodimio, evitando lesioni personali e danni agli stessi magneti. Leggere tutte le informazioni di sicurezza di seguito prima dell'installazione e dell'utilizzo.

### Maneggiare

Fare attenzione quando si fissano parti con magneti al neodimio per evitare di essere pizzicati. I magneti al neodimio sono anche fragili. Evitare di sottoporli a forti impatti per prevenirne la rottura. In caso di rottura, maneggiare con cura i pezzi perché potrebbero essere affilati.

### Tenere i magneti fuori dalla portata di bambini e animali

Per evitare danni importanti causati dall'ingestione dei magneti, tenerli fuori dalla portata di bambini e animali, perché sono abbastanza piccoli da essere ingeriti. I magneti piccoli possono costituire rischio soffocamento. Rivolgersi subito a un medico in caso di inalazione o ingestione dei magneti.

### Media magnetica

Tenere lontano da dispositivi e prodotti che possono essere danneggiati da campi magnetici forti (es. hard drive dei computer, carte di credito e musicassette).

### Dispositivo medico

I magneti al neodimio possono interferire con pacemaker e altri dispositivi medici impiantati. Raccomandiamo di consultare il medico e il produttore del dispositivo medico per informazioni specifiche sul dispositivo e sapere se fosse necessario mantenere una distanza minima tra il dispositivo medico e il nostro prodotto.

### Allergie

Evitare il contatto con i magneti al neodimio in caso di allergia al nichel.

### Lavorazione e perforazione

Non perforare o provare a modificare i magneti, perché la polvere dei magneti al neodimio è altamente infiammabile.

### Manutenzione

I magneti al neodimio manterranno magnetismo e integrità per decenni se gestiti, utilizzati e protetti a dovere.

# AVVERTENZE E PRECAUZIONI

## AVVERTENZE FCC e IC ID

Questo dispositivo si attiene alla Parte 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare operatività indesiderata.

Modifiche e variazioni non approvate espressamente dalla parte responsabile del rispetto delle regole possono rendere nulla l'autorità dell'utente ad utilizzare l'attrezzatura. Questa attrezzatura è stata testata e si è dimostrata nei limiti imposti ai dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Regole FCC.

Questi limiti sono stati imposti per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose, possibili nell'installazione residenziale. Questa attrezzatura può emettere energia a radiofrequenza e, se non installata e usata seguendo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni.

Tuttavia, non vi è garanzia che non avvengano interferenze in installazioni particolari. Se l'attrezzatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione di radio o televisori, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'attrezzatura, incoraggiamo l'utente a provare a correggere l'interferenza attraverso una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra attrezzatura e ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura a una presa facente parte di un circuito diverso da quello collegato al ricevitore.
- Consultare il venditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere aiuto.

## RADIO FREQUENZA

Bluetooth: 2400-2483.5 MHz  $\leq$ 20dBm; Wi-Fi: 2412MHz-2462 MHz  $\leq$ 20dBm (NA, CA, IL);

Wi-Fi: 2412MHz-2472 MHz  $\leq$ 20dBm (CN, EU, AU, KR, JP, SG, ecc.)

## DICHIARAZIONE CE

NanoGrid Limited (Nanoleaf) con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni rilevanti nella Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità è disponibile su [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## DICHIARAZIONE UKCA

NanoGrid Limited (Nanoleaf) con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti del prodotto e altre disposizioni rilevanti della Regolamentazione delle Attrezzature Radio del 2017. La dichiarazione di conformità è disponibile su [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## SMALTIMENTO DEL VECCHIO PRODOTTO

Il prodotto è progettato e prodotto con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando sul prodotto è affisso questo simbolo del bidone su ruote sbarrato, questo significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2012/19/UE. Controllare il sistema di smaltimento locale per prodotti elettrici ed elettronici. Agire nel rispetto delle regole locali e non smaltire i vecchi prodotti con i normali rifiuti casalinghi. Lo smaltimento corretto del vecchio prodotto aiuterà a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana.

## NOTA LEGALE

L'utilizzo di opere con il simbolo Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare specificatamente con la tecnologia identificata sul simbolo, ed è stato certificato dal produttore per rispettare gli standard delle prestazioni Apple. Apple non è responsabile delle operazioni di questo dispositivo o del suo rispetto degli standard di sicurezza e normativi.



**Secretlab MAGRGB™ Diffused LED Strip  
Smart Lighting Edition**

## **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

<b>VERPAKKINGSINHOUD</b>	_____	Pg. 1
<b>PRODUCTSPECIFICATIES</b>	_____	Pg. 1
<b>INSTALLATIE</b>	_____	Pg. 2 - 3
<b>DOWNLOAD DE APP</b>	_____	Pg. 4
<b>DE SECRETLAB MAGRGB™ KOPPELEN</b>	_____	Pg. 5
<b>DE SECRETLAB MAGRGB™ BEDIENEN</b>	_____	Pg. 6
<b>PROBLEMEN &amp; OPLOSSINGEN</b>	_____	Pg. 7
<b>WAARSCHUWINGEN EN VOORZICHTIGHEID</b>	_____	Pg. 8 - 9

# VERPAKKINGSINHOUD

## SECRETLAB MAGRGB™ DIFFUSED LED STRIP (SMART LIGHTING EDITION)

X 1



Raadpleeg de pagina Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen voor informatie over de veiligheid van de magneet.



### AANSLUITKABEL


36 cm

X 1



### CONTROLE BOX


X 1



### STROOMADAPTER

Type A / C / G / I

X 1



# PRODUCTSPECIFICATIES

**Modellen:** NL72S2N15, NL72S2N17

**Ingangsspanning:** 120V AC, 60Hz

**Modellen:** NL72S2E15, NL72S2E17

**Ingangsspanning:** 100-240V~, 50/60Hz

**Afmetingen:** 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

### Nominaal vermogen:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

**Dimmen:** 1%-100% with Nanoleaf App

**Bevat FCC ID:** 2AC7Z-ESPC6WROOM1

**Bevat IC:** 21098-ESPC6WROOM1



### Fabrikant

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

### Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain

### Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France


[support@secretlab.co](mailto:support@secretlab.co)

# INSTALLATIE


- 1** Bepaal welke kant van je bureau gemakkelijker toegang tot een stopcontact biedt. De Secretlab MAGRGB™ kan aan beide kanten van de lichtstrip van stroom worden voorzien.




- 2** Steek de kabel in de connector op de lichtstrip. Zorg ervoor dat de kabel volledig is aangesloten op de connector.




- 3** Til de achterkant van je Secretlab MAGNUS Metalen Bureau op




- 4** Richt de doorschijnende kant van je Secretlab MAGRGB™ strip naar de achterkant van het bureau.



- 5** Lijn het uiteinde van de strip uit met de zijkant van het bureau en bevestig de eindconnector magnetisch aan de onderkant van het bureau.




- 6** Bevestig de resterende lengte van de Secretlab MAGRGB™ strook aan de onderkant van het bureau en zorg ervoor dat elk van de ingebouwde magneten vastklikt.




# INSTALLATIE

- 7** Sluit de verbindingkabel op de lichtstrip en de 12V DC stekker op de adapter aan op de controller. Steek de adapter in een geschikt stopcontact.




- 8** Druk op de aan/uit-knop op de controller om je Secretlab MAGRGB™ in te schakelen. Je bent nu klaar om hem te koppelen met je smartphone.



## DOWNLOAD DE APP



Om de Nanoleaf Mobile App te downloaden op je smartphone, scan je de respectievelijke QR-codes.



### Nanoleaf Desktop App


Download de Nanoleaf desktop app op je computer via de volgende link om de Screen Mirror functie te gebruiken:

<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>

Desktop app vereist minimaal Windows 10 en macOS 12.

**Om het koppelen soepel te laten verlopen, moet je ervoor zorgen dat je de volgende dingen bij de hand hebt:**

- Je iOS- of Android-apparaat met Bluetooth en Wifi (2,4GHz) is AAN.
- Vereist iOS 15.4+ of Android 9+.
- De koppelcode op de achterkant van de controller.






# DE SECRETLAB MAGRGB™ KOPPELEN


- 1 Download en start de Nanoleaf App op je smartphone door de QR-codes te scannen.



- 2 Selecteer de tab **MORE**.



- 3 Selecteer het tabblad 'My Devices', tik op de '+' om een nieuw apparaat toe te voegen en de camera wordt automatisch geopend.




- 4 Je kunt ervoor kiezen om de koppelings QR-code te scannen of de koppelingscode handmatig in te voeren om te koppelen.

- 5 Als je ervoor kiest om de koppelcode handmatig in te voeren, selecteer dan "Secretlab MAGRGB™" als het product, klik dan op "Pair" en voer de koppelcode in.


- 6 Zodra het koppelen is voltooid, zou je product nu verbonden en klaar voor gebruik moeten zijn!

## DE SECRETLAB MAGRGB™ BEDIENEN (BESTURINGSKAST)



## DE SECRETLAB MAGRGB™ BEDIENEN (NANOLEAF APP)

Zet je verlichting aan en uit, regel de helderheid, groepeer verlichting per huis en per kamer, maak en gebruik Scènes en nog veel meer.




### DASHBOARD

Bekijk al je kamers en apparaten in één oogopslag.



### AANPASSEN

Maak je Secretlab MAGRGB™ eigen. Kies uit een breed scala aan kleuren en Scenes of maak je eigen Scenes.



### EXPLORE

Krijg toegang tot handige informatie zoals tutorials, nieuwe functies en meer.

## RESET OPTIES

Als u problemen ondervindt met uw Secretlab MAGRGB™, probeer dan de volgende stappen:

### 1) STROOMCYCLUS

Zet je lichtstrip aan door de stekker uit het stopcontact te halen en weer in het stopcontact te steken.

### 2) WiFi

Schakel je WiFi uit en weer in. Of start de app die je gebruikt om je lampen te bedienen opnieuw op of start je apparaat opnieuw op.

### 3) CONTROLEREN OP STROOM

Controleer of de stroomschakelaar niet is uitgeschakeld bij het stopcontact of de stroombalk.

### 4) VOER EEN RESET UIT

Hierdoor worden je koppelings- en netwerkgegevens gewist en moet je opnieuw koppelen. Verwijder voor het resetten je Secretlab MAGRGB™ uit de Nanoleaf app door te navigeren naar More > My Devices > Veeg naar links op je Secretlab MAGRGB™ > Delete.

Om een fabrieksreset uit te voeren op je Secretlab MAGRGB™, houdt u de aan/uit-knop op de controller 10 seconden ingedrukt. Als de reset is geslaagd, knippert de lichtbalk drie keer rood voordat hij donker wordt. De controller kan dan weer worden gekoppeld.



Als je al deze stappen hebt uitgevoerd en het probleem zich nog steeds voordoet, neem dan contact op met met ons ondersteuningsteam voor verdere assistentie.

# WAARSCHUWINGEN EN VOORZICHTIGHEID

Ideale bedrijfstemperaturen variëren van 0-40°C <95RH%. Niet gebruiken in een volledig gesloten armatuur. Het product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en is niet waterdicht.

Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, dient deze uitsluitend te worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om elektrisch of brandgevaar te voorkomen. In dit product wordt een niet-vervangbare lichtbron gebruikt. Als de lichtbron beschadigd is, mag u de lamp niet zelf demonteren. Combineer de Type C header van dit product niet met de USB header van een ander product of adapter. Hierdoor kan uw product onbruikbaar worden.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE MAGNEET

### WAARSCHUWING:

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie om op de juiste manier met neodymium magneten om te gaan en persoonlijk letsel en schade aan de magneten zelf te voorkomen. Lees alle onderstaande veiligheidsinformatie voor installatie en gebruik.

### Omgaan

Wees voorzichtig bij het bevestigen van onderdelen met neodymiummagneten om te voorkomen dat ze bekneld raken. Neodymium magneten zijn ook broos. Stel ze niet bloot aan harde schokken om breuk te voorkomen. Als ze breken, gooi ze dan met zorg weg omdat ze scherp kunnen zijn.

### Houd magneten uit de Buurt van Kinderen en Huisdieren

Houd magneten die klein genoeg zijn om ingeslikt te worden uit de buurt van kinderen en huisdieren om ernstig letsel door het inslikken van magneten te voorkomen. Kleine magneten kunnen ook verstikkingsgevaar opleveren. Zoek onmiddellijk medische hulp als magneten worden ingeslikt of ingeademd.

### Magnetische Media

Houd apparaten en producten uit de buurt die beschadigd kunnen raken door sterke magnetische velden (bijv. harde schijven van computers, creditcards en cassettebandjes).

### Medisch Apparaat

Neodymium magneten kunnen interfereren met pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparaten. We raden u aan uw arts en de fabrikant van uw medische apparaat te raadplegen voor informatie die specifiek is voor uw medische apparaat en of u een minimale afstand moet aanhouden tussen uw medische apparaat en ons product.

### Allergieën

Vermijd contact met neodymium magneten als je een nikkelallergie hebt.

### Bewerken en Boren

Boor niet in de magneten en probeer ze niet aan te passen, want neodymium magneetstof en -poeder zijn zeer ontvlambaar.

### Onderhoud

Neodymium magneten behouden tientallen jaren hun magnetisme en integriteit wanneer ze op de juiste manier worden behandeld, gebruikt en beschermd.

## FCC en ID IC WAARSCHUWING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens Deel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

## RADIOFREQUENTIE

Bluetooth: 2400-2483,5 MHz ≤20dBm; Wi-Fi: 2412MHz-2462 MHz ≤20dBm (NA, CA, IL);  
Wi-Fi: 2412MHz-2472 MHz ≤20dBm (CN, EU, AU, KR, JP, SG, etc)

## CE-VERKLARING

NanoGrid Limited (Nanoleaf) verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## UKCA VERKLARING

NanoGrid Limited (Nanoleaf) verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de productvereisten en andere relevante bepalingen van de Radio Equipment Regulations 2017. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## VERWIJDERING VAN HET OUDE PRODUCT

Het product is ontworpen en gefabriceerd met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Wanneer dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak op een product staat, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU valt. Informeer naar het plaatselijke inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten. Houd je aan de lokale regels en gooi je oude producten niet bij het normale huishoudelijke afval. Een correcte verwijdering van het oude product helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

## JURIDISCHE VERKLARING

Het gebruik van de 'Works with Apple' badge betekent dat een accessoire speciaal is ontworpen om te werken met de technologie die wordt geïdentificeerd in de badge en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheidsnormen en regelgeving.



**Pasek Rozproszonych LED Secretlab MAGRGB™  
Smart Lighting Edition**

## **INSTRUKCJA**

<b>ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA</b>	_____	Pg. 1
<b>SPECYFIKACJA PRODUKTU</b>	_____	Pg. 1
<b>INSTALACJA</b>	_____	Pg. 2 - 3
<b>ŚCIAĠNIJ APLIKACJĘ</b>	_____	Pg. 4
<b>PAROWANIE TWOJEGO SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 5
<b>STEROWANIE SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 6
<b>PROBLEMY I ROZWIĄZANIA</b>	_____	Pg. 7
<b>OSTRZEŻENIA I UWAGI</b>	_____	Pg. 8 - 9

# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

## PASEK ROZPROSZONYCH LED SECRETLAB MAGRGB™ (SMART LIGHTING EDITION)

X 1




Zapoznaj się ze stroną Ostrzeżeń i Uwag, aby poznać informacje o bezpieczeństwie dotyczącym magnesów.



### KABEL ŁĄCZNIKA


36 cm

X 1



### SKRZYŃKA STEROWANIA


X 1



### ZASILACZ

Typ A / C / G / I

X 1



# SPECYFIKACJA PRODUKTU

**Modele:** NL72S2N15, NL72S2N17

**Modele:** NL72S2E15, NL72S2E17

**Rozmiary:** 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

#### Zasilanie:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

**Przyciemnianie:** 1%-100% with Nanoleaf App

**Zawiera FCC ID:** 2AC7Z-ESPC6WROOM1

**Zawiera IC:** 21098-ESPC6WROOM1



#### Producent

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

#### Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

#### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain

#### Nanoleaf Europe SAS


11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France

[support@secretlab.co](mailto:support@secretlab.co)




# INSTALACJA


- 1** Określ, która strona twojego biurka zapewnia prostszy dostęp do gniazdka zasilania. Secretlab MAGRGB™ może być zasilane z jednego z dwóch końców paska świetlnego.




- 2** Wsuń kabel do łącznika paska świetlnego. Upewnij się, że kabel jest w pełni wsunięty do łącznika.




- 3** Podnieś tylną pokrywę twojego Metalowego Biurka Secretlab MAGNUS.




- 4** Skieruj przezroczystą stronę paska Secretlab MAGRGB™ w stronę tyłu biurka.



- 5** Dopasuj koniec paska do boku biurka i magnetycznie dołącz łącznik końcowy do spodu biurka.




- 6** Dołącz pozostałą długość paska Secretlab MAGRGB™ do spodu biurka i upewnij się, że każdy z dołączonych magnesów zatrzaskuje się w miejscu.




# INSTALACJA

- 7** Podłącz pasek świetlny łącznika kabla i wtyczkę zasilacza 12V DC w zasilaczu do sterownika. Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazdka.



- 8** Wciśnij przycisk zasilania na sterowniku, aby uruchomić twoje Secretlab MAGRGB™. Będziesz mógł je teraz sparować ze swoim smartfonem.



# ŚCIAŃNIJ APLIKACJĘ



Aby ściągnąć Mobilną Aplikację Nanoleaf na swój smartfon, zeskanuj odpowiednie kody QR.



## Aplikacja na Komputery Nanoleaf


Aby użyć funkcji Screen Mirror, prosimy ściągnąć aplikację na komputery Nanoleaf, klikając w poniższy link:

<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>

Aplikacja na komputery wymaga minimum Windows i macOS 12.

### Aby parowanie przebiegało bezproblemowo, przygotuj następujące elementy:

- Urządzenie iOS lub Android z Bluetooth i Wifi (2.4GHz) jest WŁĄCZONE.
- Wymaga iOS 15.4+ lub Android 9+.
- Kod Parowania, znajdujący się z tyłu sterownika.




# PAROWANIE TWOJEGO SECRETLAB MAGRGB™


**1** Ściągnij i uruchom Aplikację Nanoleaf na smartfon, skanując kody QR.



**2** Wybierz zakładkę **MORE**.



**3** Wybierz zakładkę "My Devices", dotknij "+", aby dodać now urządzenie, a automatycznie otworzy się kamera.




**4** Aby sparować urządzenie, możesz wybrać skanowanie przez parowanie kodem QR, lub wpisać kod parowania ręcznie.

**5** Wybierając ręczne wpisywanie kodu parowania, wybierz "Secretlab MAGRGB™" jako produkt, a następnie kliknij "Pair" i wpisz kod parowania.


**6** Po tym, jak parowanie zostanie zakończone, twój produkt powinien zostać połączony i będzie gotowy do użytkowania!

## STEROWANIE SECRETLAB MAGRGB™ (SKRZYŃKA STEROWANIA)



## STEROWANIE SECRETLAB MAGRGB™ (APLIKACJA NANOLEAF)

Włączaj i wyłączaj oświetlenie, steruj jasnością, grupuj oświetlenie według domu i pokoju, twórz i używaj Sceny i nie tylko.




### PULPIT

Przeglądaj łatwo wszystkie pomieszczenia i urządzenia.



### PERSONALIZUJ

Dopasuj Secretlab MAGRGB™ do siebie. Wybierz z szerokiej gamy kolorów i Scen, albo twórz własne.



### POZNAWAJ

Zdobądź dostęp do przydatnych informacji, takich jak tutoriale, nowe funkcje urządzenia i inne.

## OPCJE RESETU

Jeżeli wystąpiły jakiegokolwiek problemy z twoim Secretlab MAGRGB™, spróbuj wykonać następujące kroki:

### 1) WŁĄCZ I WYŁĄCZ ZASILANIE

Włącz i wyłącz zasilanie od twojego paska świetlnego, poprzez odłączenie go od gniazdka, a następnie ponowne podłączenie.

### 2) WiFi

Włącz i wyłącz urządzenie WiFi. Alternatywnie zrestartuj aplikację używaną do sterowania oświetleniem, lub zrestartuj urządzenie.

### 3) SPRAWDŹ ZASILANIE

Upewnij się, że wyłącznik zasilania nie jest wyłączony w gniazdku lub listwie zasilającej.

### 4) WYKONAJ RESET

Usunie to twoje informacje sieciowe i dotyczące parowania, a więc będziesz musiał wykonać parowanie ponownie. Przed zresetowaniem, usuń Secretlab MAGRGB™ z aplikacji Nanoleaf, przechodząc do More > My Devices > Przesuń w Lewo na Secretlab MAGRGB™ > Delete.

Aby wykonać fabryczny reset Secretlab MAGRGB™, wciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIA WŁĄCZONEGO/WYŁĄCZONEGO na Sterowniku przez 10s. Jeżeli reset się powiedzie, pasek świetlny trzykrotnie zaświeci się na czerwono, a następnie zgaśnie. Urządzenie będzie gotowe do ponownego sparowania.



Jeżeli wykonałeś te wszystkie kroki, a twój problem nadal występuje, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta, aby uzyskać wsparcie.

# OSTRZEŻENIA I UWAGI

Idealny zakres temperatur roboczych wynosi od 0 do 40°C <95RH%. Nie używać w całkowicie zamkniętym urządzeniu. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie jest wodoodporny.

Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy oświetleniowej jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia elektrycznego lub pożarowego. W tym produkcie zastosowano niewymienne źródło światła. Jeśli źródło światła jest uszkodzone, nie rozmontowuj lampy samodzielnie. Nie dopasowuj złącza typu C tego produktu do złącza USB innego produktu lub przejściówki. Może to spowodować, że produkt przestanie działać

## INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA MAGNESÓW

### UWAGA:

Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą Ci prawidłowo obchodzić się z magnesami neodymowymi i uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia samych magnesów. Przed instalacją i użyciem przeczytaj wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

### Użytkowanie

Zachowaj ostrożność podczas dołączania części z magnesami neodymowymi, aby uniknąć przytrzaśnięcia. Magnesy neodymowe są również kruche. Unikaj narażania ich na silne uderzenia, aby zapobiec pęknięciom. W przypadku pęknięcia, ostrożnie wyrzuć ich odłamki, ponieważ mogą być ostre.

### Chroń Magnesy od Dzieci i Zwierząt

Aby zapobiec poważnym obrażeniom spowodowanym połknięciem magnesu, trzymaj magnesy wystarczająco małe, aby mogły zostać połknięte, z dala od dzieci i zwierząt domowych. Małe magnesy mogą również stwarzać ryzyko zadławienia. W przypadku połknięcia lub zadławienia się magnesem należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

### Nośniki Magnetyczne

Trzymaj z dala od urządzeń i produktów, które mogą zostać uszkodzone przez silne pola magnetyczne (np. dyski twarde komputerów, karty kredytowe i kasety magnetofonowe).

### Urządzenia medyczne

Magnesy neodymowe mogą zakłócać działanie rozruszników serca i innych wszczepianych urządzeń medycznych. Zalecamy skonsultowanie się z lekarzem i producentem urządzenia medycznego w celu uzyskania informacji dotyczących konkretnego urządzenia medycznego i tego, czy konieczne jest zachowanie minimalnej odległości między urządzeniem medycznym, a naszym produktem.

### Alergie

Unikaj kontaktu z magnesami neodymowymi jeżeli masz alergię na nikiel.

### Obróbka i wiercenie

Nie wierć otworów w magnesach ani podejmuj prób ich modyfikacji, ponieważ pył i proszek magnesów neodymowych są wysoce łatwopalne.

### Konserwacja

Magnesy neodymowe zachowają swoją magnetyczność i integralność przez dziesięciolecia, jeśli będą prawidłowo obsługiwane, wykorzystywane i chronione.

# OSTRZEŻENIA I UWAGI

## OSTRZEŻENIA FCC i ID IC

To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Zasad FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń.

(2) To urządzenie musi akceptować wszystkie przychodzące zakłócenia, w tym zakłócenia które mogą wywołać działanie niezgodne z zamierzeniem.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania ze sprzętu. Sprzęt ten został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC.

Te ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. Sprzęt ten może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając sprzęt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem, a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż podłączony został odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy skonsultuj się ze sprzedawcą lub z technikiem radio/telewizyjnym.

## CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA

Bluetooth: 2400-2483.5 MHz <20dBm; Wi-Fi: 2412MHz-2462 MHz <20dBm (NA, CA, IL);

Wi-Fi: 2412MHz-2472 MHz <20dBm (CN, EU, AU, KR, JP, SG, itd.)

## DEKLARACJA CE

NanoGrid Limited (Nanoleaf) deklaruje niniejszym, że to urządzenie spełnia główne wymagania i inne warunki dotyczące Dyrektywy 2014/53/EU. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## DEKLARACJA UKCA

NanoGrid Limited (Nanoleaf) deklaruje niniejszym, że to urządzenie spełnia główne wymagania i inne warunki zawarte w Radio Equipment Regulations 2017. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## WYRZUCANIE STAREGO PRODUKTU

Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i części, które można podać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Jeśli do produktu dołączony jest symbol przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE. Dowiedz się więcej o lokalnym systemie zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucaj starych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

## INFORMACJA PRAWNA

Użycie odznaki Works with Apple oznacza, że ten sprzęt zostało zaprojektowany specjalnie do pracy z technologią określoną na odznace i został certyfikowany przez dewelopera, aby spełniać standardy wydajności Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.





**Secretlab MAGRGB™ LED-list  
(Smart Lighting Edition)**

## **BRUKSANVISNING**

<b>PAKETETS INNEHÅLL</b>	_____	Pg. 1
<b>PRODUKTSPECIFIKATIONER</b>	_____	Pg. 1
<b>INSTALLATION</b>	_____	Pg. 2 - 3
<b>LADDA NER APPEN</b>	_____	Pg. 4
<b>PARKOPPLA SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 5
<b>STYRNING AV SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 6
<b>PROBLEM OCH LÖSNINGAR</b>	_____	Pg. 7
<b>VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR</b>	_____	Pg. 8 - 9

# PAKETETS INNEHÅLL

## SECRETLAB MAGRGB™ LED-LIST (SMART LIGHTING EDITION)

X 1



Se sidan "Varningar och försiktighetsanvisningar" för information om magnetsäkerhet.

### ANSLUTNINGSKABEL


36 cm

X 1



### HANDKONTROLL


X 1



### STRÖMADAPTER

Typ A / C / G / I

X 1



# PRODUKTSPECIFIKATIONER

**Modeller:** NL72S2N15, NL72S2N17

**Ingångsspänning:** 120V AC, 60Hz

**Modeller:** NL72S2E15, NL72S2E17

**Ingångsspänning:** 100-240V~, 50/60Hz

**Mått:** 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

### Nominell effekt:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

**Dimning:** 1%-100% with Nanoleaf App

**Innehåller FCC ID:** 2AC7Z-ESPC6WR00M1

**Innehåller IC:** 21098-ESPC6WR00M1



### Tillverkare

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

### Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain


### Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France


[support@secretlab.co](mailto:support@secretlab.co)

# INSTALLATION


- 1** Avgör vilken sida av skrivbordet som ger bäst åtkomst till ett eluttag. Secretlab MAGRGB™ kan strömförsörjas från båda ändarna av LED-listen.




- 2** Sätt i kabeln i kontakten på LED-listen. Säkerställ att kabeln är ordentligt ansluten till kontakten.




- 3** Lyft den bakre luckan på ditt Secretlab MAGNUS skrivbord i metall.




- 4** Vänd den genomskinliga sidan av Secretlab MAGRGB™-listen mot baksidan av skrivbordet.



- 5** Rikta in änden av listen så att den ligger jämnt mot sidan av skrivbordet och fäst ändkontakten magnetiskt på undersidan av skrivbordet.




- 6** Fäst resten av Secretlab MAGRGB™-listen på undersidan av skrivbordet och säkerställ att alla de integrerade magneterna fäster ordentligt.




# INSTALLATION

- 7** Koppla ihop anslutningskabeln på LED-listen och 12 V DC-kontakten på adaptern till handkontrollen. Anslut adaptern till ett lämpligt eluttag.



- 8** Tryck på strömknappen på handkontrollen för att starta din Secretlab MAGRGB™. Du är nu redo att para ihop den med din smartphone.



# LADDA NER APPEN



För att ladda ner Nanoleafs mobilapp på din smartphone skannar du respektive QR-kod.



## Nanoleafs skrivbordsapp


För att använda funktionen Screen Mirror behöver du ladda ner Nanoleafs skrivbordsapp på din dator genom att gå till följande länk:

<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>

Systemkrav för skrivbordsappen: Windows 10/macOS 12 eller senare versioner.

**För att säkerställa en smidig parkopplingsprocess bör du säkerställa att du har följande saker redo:**


- Din iOS- eller Android-enhet med Bluetooth och Wifi (2,4 GHz) påslaget.
- iOS 15.4+ eller Android 9+.
- Parningskoden finns på baksidan av handkontrollen.




**1** Ladda ner och starta Nanoleaf-appen på din smartphone genom att skanna QR-koderna.



**2** Välj fliken **MORE**.



**3** Välj fliken "My Devices" och tryck på "+" för att lägga till en ny enhet så öppnas kameran automatiskt.




**4** Du kan välja att skanna QR-koden för parkoppling eller ange parkopplingskoden manuellt.

**5** När du väljer att ange parkopplingskoden manuellt ska du välja "Secretlab MAGRGB™" som produkt, klicka på "Pair" och sedan ange parkopplingskoden.


**6** När parkopplingen är klar ska din produkt vara ansluten och redo att användas!

## STYRNING AV SECRETLAB MAGRGB™ (HANDKONTROLL)



## STYRNING AV SECRETLAB MAGRGB™ (NANOLEAF-APPEN)

Slå på och av lamporna, reglera ljusstyrkan, gruppera lamporna efter hem och rum, skapa och använd olika sekvenser och mycket annat.




### KONTROLLPANEL

Se alla dina rum och enheter på nolltid.



### ANPASSA

Gör din Secretlab MAGRGB™ personlig. Välj bland ett brett utbud av färger och sekvenser eller skapa dina egna.



### EXPLORE

Få tillgång till användbar information, inklusive handledning, nya enhetsfunktioner och mycket annat.



## ÅTERSTÄLLNINGSAKTERNATIV

Om du stöter på problem med din Secretlab MAGRGB™ kan du prova följande:

### 1) STRÖMCYKEL

Stäng av strömmen till din LED-list genom att koppla bort den från eluttaget och sedan ansluta den igen.

### 2) WiFi

Slå av och på Wi-Fi igen. Alternativt kan du starta om appen som du använder för att kontrollera dina lampor eller starta om din enhet.

### 3) KONTROLLERA STRÖMFÖRSÖRJNINGEN

Säkerställ att strömbrytaren inte är avstängd vid uttaget eller grenuttaget.

### 4) UTFÖR EN ÅTERSTÄLLNING

Detta raderar din parkopplings- och nätverksinformation, vilket innebär att du måste parkoppla på nytt. Innan du återställer behöver du radera din Secretlab MAGRGB™ från Nanoleaf-appen genom att gå till More > My Devices > Svep åt vänster på din Secretlab MAGRGB™ > Delete.

För att fabriksåterställa din Secretlab MAGRGB™ trycker du på och håller in AV/PÅ-knappen på handkontrollen i 10 sekunder. Om återställningen lyckas kommer LED-listen att blinka rött tre gånger innan den slocknar, varefter den är redo för parkoppling igen.



Om du har utfört alla dessa steg och problemet fortfarande kvarstår ber vi dig att kontakta vårt supportteam för hjälp.

# VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

Idealiska drifttemperaturer varierar mellan 0–40 °C < 95 RH%. Får inte användas i helt slutna utrymmen. Produkten är endast avsedd för inomhusbruk och är inte vattentät.

Om den externa flexibla kabeln eller sladden på denna produkt skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika elektrisk fara eller brandrisk. Denna produkt använder en icke utbyttbar ljuskälla. Om ljuskällan är skadad får du inte själv demontera produkten. Koppla inte ihop USB C-anslutningen på den här produkten med USB-anslutningen på någon annan produkt eller adapter, eftersom detta kan leda till att produkten blir oanvändbar.

## SÄKERHETSINFORMATION FÖR MAGNETER

### **VARNING:**

Denna bruksanvisning innehåller viktig säkerhetsinformation som hjälper dig att hantera neodymmagneter på rätt sätt för att undvika personskador och skador på själva magneterna. Läs igenom all säkerhetsinformation nedan före installation och användning.

### **Hantering**

Var försiktig när du fäster delar med neodymmagneter för att undvika klämskador. Neodymmagneter är dessutom ömtåliga. Undvik att utsätta dem för hårda stötar för att förhindra att de går sönder. Om de går sönder ska de kasseras med försiktighet eftersom de kan vara vassa.

### **Håll magneter borta från barn och husdjur**

För att förhindra allvarliga skador vid intag av magneter ska du hålla magneter som är tillräckligt små för att sväljas borta från barn och husdjur. Små magneter kan även utgöra en kvävningrisk. Uppsök omedelbart sjukvård om du sväljer eller andas in magneter.

### **Magnetisk media**

Håll borta från enheter och produkter som kan skadas av starka magnetfält (t.ex. datorhårddiskar, kreditkort och kassetband).

### **Medicintekniska produkter**

Neodymmagneter kan störa pacemakers och andra implanterade medicintekniska produkter. Vi rekommenderar att du rådgör med din läkare och tillverkaren av den medicintekniska produkten för specifik information om din medicintekniska produkt och om du behöver hålla ett minimiavstånd mellan den medicintekniska produkten och vår produkt.

### **Allergier**

Undvik kontakt med neodymmagneter om du har nickelallergi.

### **Maskinbearbetning och borrar**

Borra inte och försök inte att modifiera magneterna eftersom damm och pulver från neodymmagneter är mycket brandfarligt.

### **Underhåll och skötsel**

Neodymmagneter behåller sin magnetism och tillförlitlighet i årtionden om de hanteras, används och skyddas på rätt sätt.

# VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

## FCC- och ID IC-VARNING

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor:

- (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning.
- (2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna.

Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsmiljö. Denna utrustning kan avge radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

## RADIOFREKVENNS

Bluetooth: 2 400–2 483,5 MHz  $\leq$  20 dBm; Wi-Fi: 2 412 MHz–2 462 MHz  $\leq$  20 dBm (NA, CA, IL);

Wi-Fi: 2 412 MHz–2472 MHz  $\leq$  20 dBm (CN, EU, AU, KR, JP, SG, etc)

## CE-FÖRSÄKRAN

NanoGrid Limited (Nanoleaf) försäkrar härmed att denna enhet överensstämmer med de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse finns att tillgå på [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## UKCA-FÖRSÄKRAN

NanoGrid Limited (Nanoleaf) försäkrar härmed att denna enhet överensstämmer med produktkraven och andra relevanta bestämmelser i Radio Equipment Regulations 2017. Försäkran om överensstämmelse finns att tillgå på [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## BORTSKAFFANDE AV DIN GAMLA PRODUKT

Din produkt är designad och tillverkad av högkvalitativa material och delar som kan återvinnas och återanvändas. När symbolen med den överkryssade soptunnan sitter på en produkt betyder det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU. Läs mer om ditt lokala insamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala bestämmelser och släng inte dina gamla produkter tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av din gamla produkt bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## JURIDISKT MEDDELANDE

Användningen av märket "Works with Apple" innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera med den teknik som identifieras i märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples standarder. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess överensstämmelse med säkerhetsstandarder och lagstadgade standarder.



**Secretlab MAGRGB™ 光拡散LEDストリップライト  
スマートライトタイプ**

**取り扱い説明書**

<b>梱包物一覧</b>	Pg. 1
<b>商品仕様</b>	Pg. 1
<b>取り付け方法</b>	Pg. 2 - 3
<b>アプリをダウンロード</b>	Pg. 4
<b>SECRETLAB MAGRGB™とペアリング</b>	Pg. 5
<b>SECRETLAB MAGRGB™の正しい操作方法</b>	Pg. 6
<b>よくあるご質問 (FAQ)</b>	Pg. 7
<b>安全上のご注意</b>	Pg. 8 - 9

# 梱包物一覧

## SECRETLAB MAGRGB™ 光拡散LEDストリップライト (スマートライトタイプ)

X1




磁石製品取扱注意事項については、「安全上のご注意」のページをご参照ください。



### 接続ケーブル


36 cm

X1



### コントロールボックス


X1



### ACアダプター

タイプA/C/G/I

X1



# 商品仕様

モデル: NL72S2N15, NL72S2N17

入力電圧: 120V AC, 60Hz

モデル: NL72S2E15, NL72S2E17

入力電圧: 100-240V~, 50/60Hz

商品の寸法: 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

### 定格出力:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

調光: 1%-100% with Nanoleaf App

FCC ID認証: 2AC7Z-ESPC6WROOM1

IC認証: 21098-ESPC6WROOM1



### 製造元 (製造業者)

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

### Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain


### Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France


support@secretlab.co

# 取り付け方法


- 1** デスクのどちら側からコンセントが通りやすいか確認してください。Secretlab MAGRGB™のライトストリップの両端を電源に接続できます




- 2** ケーブルをライトストリップのコネクターに差し込んでください。ケーブルがコネクターに完全に接続されていることを確認してください。




- 3** Secretlab MAGNUS メタルデスクの天板の後部カバーを上げてください。




- 4** Secretlab MAGRGB™ストリップの透明側をデスクの後ろ側に向けてください。



- 5** ストリップの端をデスクの側面に合わせ、エンドコネクターをマグネットでデスクの裏側に取り付けてください。




- 6** Secretlab MAGRGB™ ストリップの残りの長さをデスクの下側に貼り付けてください。埋め込まれたマグネットが各所定の位置に固定された際に「カチッ」と音がするの確認してください。




## 取り付け方法

- 7** ライトストリップのコネクターケーブルとアダプターのDC12Vプラグをコントローラーに接続してください。プラグをコントローラーに接続してください。アダプターのプラグを電源コンセントに差し込んでください。



- 8** コントローラーの電源ボタンを押してSecretlab MAGRGB™の電源を入れます。これでスマートフォンとのペアリングする準備が完了しました。





# アプリをダウンロード



QRコードを読み取ってNanoleafのモバイルアプリをスマートフォンにダウンロードしてください。



## Nanoleaf デスクトップアプリ


スクリーンミラー機能を使用するには、以下のリンクにアクセスし、パソコンにNanoleaf デスクトップアプリをダウンロードしてください：

<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>

デスクトップアプリにはWindows 10 と macOS 12以上が必要です。

### スムーズなペアリングの為に、以下の条件を確認してください：

- BluetoothおよびWifi (2.4GHz) を搭載したiOSまたはAndroidデバイスが「オン」だと確認してください。
- iOS 15.4+ または Android 9+ 以上が必要です。
- コントローラーの裏面にペアリングコードが記載されています。




# SECRETLAB MAGRGB™とペアリング


- 1 QRコードを読み取ってNanoleafのモバイルアプリをスマートフォンにダウンロードしてください。



- 2 「もっと」を選択してください。



- 3 「マイデバイス」を選択し、新しいデバイスを追加する為「+」をタップしてカメラが自動的に開きます。




- 4 ペアリングQRコードを読み取る、又はペアリングコードを入力してペアリングしてください。

- 5 ペアリングコードを入力する場合は、「Secretlab MAGRGB™」を選択し、「ペア」をタップしてからペアリングコードを入力してください。


- 6 ペアリングが完了したら、「接続」して使用できるようになります。

# SECRETLAB MAGRGB™(コントロールボックス)の正しい操作方法



# SECRETLAB MAGRGB™ (NANOLEAF アプリ)の正しい操作方法

照明のオン/オフ、明るさのコントロール、家や部屋ごとのライトのグループ化、シーンの作成と使用など、多くのことができます。




## ダッシュボード

すべての部屋とデバイスを一目で簡単に確認できます。



## カスタマイズ

Secretlab MAGRGB™を自分好みにカスタマイズできます。幅広いカラーとシーンから選択する事か、オリジナルを作ることも出来ます。



## 探検

チュートリアル、新しいデバイスの機能など、役立つ情報にアクセスする事が出来ます。

## リセットオプション

Secretlab MAGRGB™が正常に動作しない場合は、以下に紹介するヒントをお試しください

### 1) 電源を切って再度入れる

ライトストリップを電源コンセントから抜いて再度コンセントに差し込んで電源を入れてください。

### 2) WiFi (無線LAN)

WiFi (無線LAN) を一度オフにした後、再度オンに切り替えてください。  
またはアプリを再起動するか、デバイスを再起動してください。

### 3) 電源の確認

コンセントと電源タップの電源スイッチがオフになっていないか確認してください。

### 4) 再起動と初期化の設定をする

ペアリングとネットワーク情報が削除される為、一度リセットされたら再度ペアリングを行う必要があります。リセットを行う前に、NanoleafアプリからSecretlab MAGRGB™を削除してください。  
「もっと」>「マイデバイス」>「Secretlab MAGRGB™」を左にスワイプ>「削除」。

Secretlab MAGRGB™のリセットをするには、コントローラーの電源オン/オフボタンを10秒間長押ししてください。ライトストリップが3回赤く点滅してから暗くなればリセットが完了です。  
これでまたペアリングする事が出来ます。



以上の手順を実行しても問題が解決されない場合、  
弊社のサポートチームまでご連絡ください。

# 安全上のご注意

理想的な使用温度範囲は0～40°C <95RH%です。密閉型器具では使用しないでください。  
本製品は屋内専用であり、防水仕様ではありません。

この照明器具の外部フレキシブルケーブルまたはコードが損傷している場合は、危険を避けるために、製造業者またはサービス代理店または同様の有資格者によって排他的に交換されるものとします。  
本製品には交換不可能な光源が使用されています。光源が破損した場合、ご自身でランプを分解しないでください。  
本製品のType Cヘッダーと他の製品やアダプターのUSBヘッダーを合わせないでください。  
製品が使用できなくなる場合があります。

## 磁石製品取扱注意事項

### 注意：

この取扱説明書には、ネオジム磁石の正しい取り扱い方法、人身事故や磁石自体の損傷を避ける為の重要な安全情報が記載されています。設置および使用前に、以下の安全情報をすべてお読みください。

### 製品取扱上の注意

ネオジム磁石を含む部品を取り付ける際は、指や体が挟まれないようにご注意ください。ネオジムは、ガラスのような質感を持つ硬くて脆い物質です。破損を防ぐため、強い衝撃を与えないようにしてください。  
破損した場合は、破片が鋭利になっている場合がありますので、注意して廃棄してください。

### 磁石を子供やペットに近づけないでください

強力な磁力を持ったネオジム磁石製のマグネットを子供やペットが誤飲したことにより、開腹手術が必要となった事故が複数発生しています。その為、製品を子供とペットに触れさせないよう十分注意いただくようお願いします。  
万が一、誤飲が疑われる場合は、すぐに医療機関を受診して下さい。

### 磁気媒体

強い磁場によって損傷する可能性のある機器や製品（ハードドライブ、クレジットカード、カセットテープなど）には近づけないでください。

### 医療機器

ネオジム磁石は、ペースメーカーやその他の埋め込み型医療機器と干渉する可能性があります。ご使用の医療機器に固有の情報や、ご使用の医療機器と当社製品との間に最小限の距離を保つ必要があるかどうかについては、かかりつけの医師や医療機器メーカーにご相談されることをお勧めします。

### アレルギーについて

ニッケルアレルギーがある場合は、ネオジム磁石との接触を避けてください。

### ドリルや改造について

ネオジム磁石の粉塵や粉末は非常に可燃性が高いため、ドリルで穴を開けたり、磁石を改造したりしないでください。

### メンテナンス

ネオジム磁石は、一度磁化されると長期間磁力を維持できますが、高温や錆びることで磁力が弱まる事があります。その為、ネオジム磁石を長期間使用する場合は、適切な温度や保管環境に注意する必要があります。

# 安全上のご注意

## FCC/IC コンプライアンス

本機器は、FCC規則のパート15に準拠しています。次の2つの条件に従って動作するものとします。

- (1) 本製品は有害な干渉を引き起こさない。
- (2) 本製品は、装置の望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、いずれの干渉も受け入れることができます。

本製品は、FCC 規則パート15に従ったクラス B デジタル機器の制限に準拠しています。本装置は、FCC 規則のパート15に従い、クラス B デジタル装置の制限に準拠することが試験により確認されています。これらの制限は、住宅用設置において有害な干渉から適切に保護することを目的としています。本製品は、無線周波数エネルギーを放射する可能性があり、説明書に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。

ただし、特定の設置場所で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本製品がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、それは本製品の電源を切ったり入れたりすることで判断することができますが、ユーザーは以下の手段の1つまたは複数によって干渉を修正するよう試みることをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変える、または位置を変える。
- 機器と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。

## 無線周波数

Bluetooth: 2400-2483.5 MHz  $\leq$ 20dBm; Wi-Fi: 2412MHz-2462 MHz  $\leq$ 20dBm (NA, CA, IL);

Wi-Fi: 2412MHz-2472 MHz  $\leq$ 20dBm (CN, EU, AU, KR, JP, SG, etc)

## CE マーク

NanoGrid Limited (Nanoleaf®) は、このデバイスが以下の必須要件およびその他の関連規定(指令2014/53/EU)に準拠していることをここに宣言します。適合宣言はこちらのURLからご覧ください: [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## UKCAマーク

NanoGrid Limited (Nanoleaf)はここに、この製品が無線機器規則2017の必須要件およびその他すべての適用される規制に準拠していることをここに宣言します。適合宣言はこちらのURLからご覧ください: [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## 古い製品の処分方法

本製品は、リサイクルや再利用が可能な高品質の素材と部品で設計・製造されています。こちらの十字のごみ箱マークが製品に付いている場合、製品が欧州指令2012/19/EUの対象であることを意味します。お住まいの地域の電気・電子製品の回収システムについてご確認ください。お住まいの地域の規則に従って行動し、古い製品を通常のごみと一緒に廃棄しないでください。古い製品を正しく廃棄することで、環境や人体に悪影響を及ぼす可能性を防ぐことができます。

## 法律上の注意点

Works with Appleバッジの使用は、アクセサリが Works with Apple で識別される技術と特に機能するように設計されていることを意味し、Apple 社の性能基準を満たすことが、開発者によって保証されていることを意味します。Apple社は、本装置の動作や安全および規制基準の遵守について責任を負いません。



**Secretlab MAGRGB™ 디퓨즈 LED 스트립 스마트 라이팅  
에디션 사용자 매뉴얼**

**사용 설명서**

<b>포장 내용물</b>	_____	Pg. 1
<b>제품 사양</b>	_____	Pg. 1
<b>설치</b>	_____	Pg. 2 - 3
<b>앱 다운로드</b>	_____	Pg. 4
<b>SECRETLAB MAGRGB™ 페어링하기</b>	_____	Pg. 5
<b>SECRETLAB MAGRGB™ 제어하기</b>	_____	Pg. 6
<b>문제 및 해결책</b>	_____	Pg. 7
<b>경고 및 주의사항</b>	_____	Pg. 8 - 9




## 포장 내용물

### SECRETLAB MAGRGB™ 디퓨즈 LED 스트립 (스마트 라이팅 에디션)

X1



자석 안전 정보는 경고 및 주의 페이지를 참조하십시오.




#### 커넥터 케이블

36 cm  
X1




#### 컨트롤러 박스

X1



#### 전원 어댑터

타입 A/C/G/I  
X1



## 제품 사양

모델: NL72S2N15, NL72S2N17

모델: NL72S2E15, NL72S2E17

입력 전압: 120V AC, 60Hz

입력 전압 100-240V~, 50/60Hz

크기: 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

#### 정격 전력:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

디밍: 1%-100% with Nanoleaf App

FCC ID 포함: 2AC7Z-ESPC6WROOM1

IC 포함: 21098-ESPC6WROOM1



#### 제조업체

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

#### Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

#### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain


#### Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France


support@secretlab.co

# 설치


- 1** 데스크의 어느 쪽이 전원 콘센트에 더 쉽게 접근할 수 있는 방향을 결정하세요. Secretlab MAGRGB™는 라이트 스트립의 양쪽 끝에서 전원을 공급할 수 있습니다.




- 2** 케이블을 라이트스트립의 커넥터에 끼웁니다. 케이블이 커넥터에 완전히 연결되었는지 확인하십시오.




- 3** Secretlab MAGNUS 메탈 데스크의 후면 커버를 들어올립니다.




- 4** Secretlab MAGRGB™ 스트립의 반투명한 면을 책상 뒤쪽으로 향하게 합니다.




- 5** 스트립 끝을 책상 측면과 정렬하고 끝 커넥터를 책상 아래쪽에 자석으로 붙입니다.




- 6** Secretlab MAGRGB™ 스트립의 남은 길이를 책상 아래에 부착하여 포함된 각 마그네틱 제자리에 들어맞는지 확인합니다.



**7** 라이트스트립의 커넥터 케이블과 어댑터의 12V DC 플러그를 컨트롤러에 연결합니다. 어댑터를 적합한 전원 콘센트에 끼웁니다.




**8** 컨트롤러의 전원 버튼을 눌러 Secretlab MAGRGB™를 켭니다. 이제 스마트폰과 페어링할 준비가 된 것입니다.



## 앱 다운로드



스마트폰에 Nanoleaf 모바일 앱을 다운로드하려면 각 QR 코드를 스캔합니다.



### Nanoleaf 데스크탑용 앱


스크린 미러 기능을 사용하려면 다음 링크를 방문하여 컴퓨터에 Nanoleaf 데스크탑용 앱을 다운로드하십시오.

<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>

데스크탑용 앱은 Windows 및 macOS 이상이 필요합니다.

원활한 페어링 프로세스를 보장하려면 다음 사항이 준비되었는지 확인하십시오.

- Bluetooth 및 Wifi(2.4GHz)가 포함된 iOS 또는 Android 장치가 켜져 있습니다.
- iOS 15.4+ 또는 Android 9+가 필요합니다.
- 페어링 코드는 컨트롤러 뒷면에서 찾을 수 있습니다.




# SECRETLAB MAGRGB™ 페어링하기


**1** QR 코드를 스캔하여 스마트폰에 Nanoleaf 앱을 다운로드하고 실행합니다.



**2** 더 보기(MORE) 탭을 선택합니다.



**3** "내 장치(My Devices)" 탭을 선택하고 "+"를 탭하여 새 장치를 추가하면 카메라가 자동으로 열립니다.




**4** 페어링 QR 코드를 스캔하여 페어링하거나 페어링 코드를 수동으로 입력하도록 선택할 수 있습니다.

**5** 페어링 코드를 수동으로 입력하도록 선택할 경우 "Secretlab MAGRGB™"를 제품으로 선택한 후 "페어링(Pair)"을 클릭하고 페어링 코드를 입력합니다.


**6** 페어링이 완료되면 이제 제품이 연결완료 되었으며, 바로 사용이 가능합니다.

## SECRETLAB MAGRGB™ 제어하기(컨트롤러 박스)



## SECRETLAB MAGRGB™ 제어하기(NANOLEAF 앱)

라이트를 켜고 끄고, 밝기를 제어하고, 라이트를 집 그리고 방 기준으로 그룹화하고, 씬을 만들고 사용하는 등의 작업을 수행합니다.




### 대시보드

모든 방과 집을 한눈에 손쉽게 볼 수 있습니다.



### 맞춤 설정

나만의 Secretlab MAGRGB™를 만들 수 있습니다. 광범위한 컬러와 씬 중에서 선택하거나 나에게 맞게 설정할 수 있습니다.



### 살펴보기

튜토리얼, 새 장치 기능 등을 포함한 유용한 정보에 액세스합니다.

## 옵션 재설정

Secretlab MAGRGB™에 문제가 생길 경우 다음 단계를 시도해 보십시오.

### 1) 파워 사이클

전원 콘센트에 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 라이트스트립의 파워 사이클을 수행합니다.

### 2) WiFi

WiFi를 껐다가 다시 켜도록 전환합니다. 또는 사용 중인 앱을 다시 시작하여 라이트를 제어하거나 장치를 다시 시작합니다.

### 3) 전원 확인

콘센트 또는 전원 바의 전원 스위치가 꺼졌는지 확인하십시오.

### 4) 재설정 수행

페어링 및 네트워크 정보가 삭제되므로 다시 페어링해야 합니다. 재설정하기 전에 더 보기 (More) > 내 장치(My Devices) > Secretlab MAGRGB™에서 왼쪽으로 밀기 > 삭제(Delete)로 이동하여 Nanoleaf 앱에서 Secretlab MAGRGB™를 삭제합니다.

Secretlab MAGRGB™에서 공장초기화하려면 컨트롤러의 전원 켜기/끄기 버튼을 10초 동안 길게 누르세요. 재설정이 성공하면 라이트 스트립이 빨간색으로 세 번 깜박인 후 어두워집니다. 그러면 다시 페어링할 준비가 됩니다.



이 단계를 모두 수행했는데도 문제가 여전히 지속된다면 지원팀에 문의하여 추가 지원을 받으세요.

## 경고 및 주의사항

이상적인 작동 온도는 0~40°C <95RH%입니다. 완전히 인클로징된 설비에서 사용하지 마십시오. 본 제품은 실내에서만 사용하도록 설계되었으며 방수 기능이 없습니다.

이 조명 기기의 유연한 외부 케이블 또는 코드가 손상된 경우 전기 또는 화재 위험을 방지하기 위해 제조업체 또는 그 서비스 에이전트나 이와 유사한 자격을 갖춘 사람만 교체해야 합니다. 이 제품에는 교체할 수 없는 광원이 사용됩니다. 광원이 손상된 경우 자체적으로 램프를 분해하지 마십시오. 이 제품의 Type C 헤더를 다른 제품 또는 어댑터의 USB 헤더와 일치시키지 마십시오. 이로 인해 제품을 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

### 마그넷 안전 정보

#### 경고:

이 설명서에는 네오디뮴 마그넷을 올바르게 취급하고 부상이나 마그넷 자체의 손상을 방지하는 데 도움이 되는 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다. 설치 및 사용 전에 아래 모든 안전 정보를 읽어보십시오.

#### 취급

네오디뮴 마그넷이 있는 부품을 부착할 때는 끼이지 않도록 주의하십시오. 네오디뮴 마그넷도 깨지기 쉽습니다. 깨지지 않도록 강한 충격을 가하지 마십시오. 깨진 경우 조각이 날카로울 수 있으니 주의해서 버리십시오.

#### 어린이와 반려동물 가까이에 마그넷을 두지 마십시오

마그넷 삼킴으로 인한 심각한 부상을 방지하기 위해 삼킬 만큼 작은 마그넷은 어린이와 반려동물 근처에 두지 마십시오. 작은 마그넷도 질식 위험을 초래할 수 있습니다. 마그넷을 삼키거나 흡입한 경우 즉시 의사의 진료를 받도록 하십시오.

#### 마그네틱 미디어

강한 자기장으로 손상될 수 있는 장치나 제품(예: 컴퓨터 하드 드라이브, 신용카드, 카세트 테이프)은 가까이 두지 마십시오.

#### 의료 기기

네오디뮴 마그넷은 심박 조율기 및 기타 이식형 의료 기기와 간섭을 일으킬 수 있습니다. 의료 기기와 당사 제품 사이에 최소 거리를 유지해야 하는지 여부와 의료 기기 관련 정보는 담당 의사 및 의료 기기 제조업체에 문의하는 것이 좋습니다.

#### 알레르기

니켈 알레르기가 있는 경우 네오디뮴 마그넷과의 접촉을 피하십시오.

#### 기계 가공 및 드릴링

네오디뮴 마그넷의 먼지와 분말은 가연성이 높으므로 마그넷에 구멍을 뚫거나 개조하려고 하지 마십시오.

#### 유지 관리

네오디뮴 마그넷은 적절하게 취급, 활용, 보호하면 수십 년 동안 자성과 무결성을 유지할 수 있습니다.



# 경고 및 주의사항

## FCC 및 ID IC 경고

이 장치는 FCC 규정의 파트 15를 준수합니다. 작동에는 다음 두 조건이 적용됩니다.

- (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않을 수 있습니다.
- (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

규정 준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 사용자의 장비 운영 권한을 무효화할 수 있습니다. 이 장비는 테스트를 거쳐 FCC 규정의 파트 15에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.

이러한 제한은 가정에 설치 시 유해한 간섭으로부터 합리적으로 보호하기 위해 고안되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 환경에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 켜다 켜서 확인할 수 있음), 사용자는 다음 중 하나 이상의 방법으로 간섭을 해결해 보는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 대리점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

## 무선 주파수

Bluetooth: 2400-2483.5MHz ≤20dBm, Wi-Fi: 2412MHz-2462MHz ≤20dBm(NA, CA, IL),  
Wi-Fi: 2412MHz-2472MHz ≤20dBm(CN, EU, AU, KR, JP, SG 등)

## CE 선언

NanoGrid Limited (Nanoleaf)는 이 장치가 지침 2014/53/EU의 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/)에서 적합성 선언을 확인할 수 있습니다.

## UKCA 선언

NanoGrid Limited (Nanoleaf)는 이 장치가 무선 장비 규정 2017의 제품 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/)에서 적합성 선언을 확인할 수 있습니다.

## 기존 제품 폐기

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 소재와 부품으로 설계 및 제조됩니다. 이렇게 엑스 표시가 그어진 바퀴 달린 쓰레기통 기호가 제품에 부착된 경우, 해당 제품이 유럽 지침 2012/19/EU의 적용을 받는다는 것을 의미합니다. 해당 지역의 전기 및 전자 제품 수거 시스템에 대해 알아보십시오. 현지 규칙에 따라 행동하고 오래된 제품을 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 오래된 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 미칠 수 있는 부정적인 결과를 예방하는 데 도움이 됩니다.

## 법적 고지 사항

Works with Apple 배지를 사용하면 해당 액세서리가 배지에 명시된 기술과 함께 작동하도록 특별히 설계되었으며 개발자가 Apple 성능 표준을 충족한다고 인증했음을 의미합니다. Apple은 이 장치의 작동 또는 안전 및 규정 표준 준수에 대한 책임이 없습니다.



**Secretlab MAGRGB™ Diffused LED Strip  
Smart Lighting Edition**


## **PANDUAN PENGGUNA**

<b>ISI PAKET</b>	_____	Pg. 1
<b>SPEKIFIKASI PRODUK</b>	_____	Pg. 1
<b>INSTALASI</b>	_____	Pg. 2 - 3
<b>DOWNLOAD APLIKASI</b>	_____	Pg. 4
<b>MENHUBUNGKAN SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 5
<b>PENGATURAN SECRETLAB MAGRGB™</b>	_____	Pg. 6
<b>MASALAH &amp; SOLUSI</b>	_____	Pg. 7
<b>PERINGATAN</b>	_____	Pg. 8 - 9

# ISI PAKET

## SECRETLAB MAGRGB™ DIFFUSED LED STRIP (SMART LIGHTING EDITION)

X 1




### KONEKTOR KABEL

36 cm  
X 1




### KOTAK KONTROLLER

X 1



### ADAPTOR LISTRIK

Tipe A/C/G/I  
X 1



# SPESIFIKASI PRODUK

**Model:** NL72S2N15, NL72S2N17

**Tegangan Masuk:** 120V AC, 60Hz

**Model :** NL72S2E15, NL72S2E17

**Tegangan Masuk:** 100-240V~, 50/60Hz

**Ukuran :** 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

### Nilai Daya:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

**Tingkat keredupan:** 1%-100% with Nanoleaf App

**Berisi ID FCC:** 2AC7Z-ESPC6WR00M1

**Berisi IC:** 21098-ESPC6WR00M1



### Di Produksi Oleh

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

### Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain


### Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France


[support@secretlab.co](mailto:support@secretlab.co)

# INSTALASI


- 1** Tentukan sisi mana dari meja Anda yang lebih mudah akses ke stopkontak. Secretlab MAGRGB™ dapat dihubungkan kepada sumber daya dari kedua ujung strip lampu.




- 2** Masukkan kabel ke dalam konektor pada strip lampu. Pastikan kabel tersambung sepenuhnya dengan konektor.




- 3** Angkat penutup belakang dari Secretlab MAGNUS




- 4** Sisi tembus pandang strip Secretlab MAGRGB™ harus menghadap ke bagian belakang meja.



- 5** Sejajarkan ujung strip dengan sisi meja dan pasang konektor ujung yang magnetis ke bagian bawah meja




- 6** Pasang sisa bagian strip Secretlab MAGRGB™ ke bagian bawah meja, pastikan masing-masing magnet terpasang pada tempatnya.




# INSTALASI

- 7** Hubungkan kabel konektor pada lightstrip dan colokkan 12V DC adaptor ke ke stopkontak yang sesuai.




- 8** Tekan tombol daya pada pengontrol untuk menyalakan Secretlab MAGRGB™ Anda. Sekarang anda dapat menghubungkan MAGRGB™ dengan aplikasi Nanoleaf yang dapat didownload pada ponsel anda.



## DOWNLOAD APLIKASI



Untuk download Aplikasi Seluler Nanoleaf di ponsel Anda, scan kode QR sesuai dengan tipe ponsel Anda.



### Aplikasi Desktop Nanoleaf


Untuk menggunakan fitur Screen Mirror, silakan download aplikasi desktop Nanoleaf di komputer Anda dengan mengunjungi link berikut:

<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>

Aplikasi desktop yang dapat digunakan min. Windows 10 & macOS 12.

**Untuk memastikan proses pemasangan yang lancar, pastikan Anda telah menyiapkan hal-hal berikut:**

- Perangkat iOS atau Android Anda dengan Bluetooth dan Wifi (2.4GHz) telah diaktifkan.
- Memerlukan iOS 15.4+ atau Android 9+.
- Pairing Code terdapat di bagian belakang controller.




# MENGHUBUNGKAN SECRETLAB MAGRGB™


- 1 Download dan launch aplikasi Nanoleaf di ponsel Anda dengan memindai kode QR.



- 2 Pilih tab "**MORE**" untuk pilihan lebih lanjut.



- 3 Pilih tab "My Devices", pilih "+" untuk menambahkan perangkat baru, dan kamera akan terbuka secara otomatis.




- 4 Anda dapat memilih untuk scan kode pairing QR, masukkan kode pasangan secara manual untuk menghubungkan.

- 5 Bila Anda memilih untuk memasukkan kode pairing secara manual, pilih "Secretlab MAGRGB™" sebagai produk, lalu klik "Pair" dan masukkan kode untuk menghubungkan.

- 6 Setelah pairing selesai, produk Anda sekarang sudah terhubung dan siap digunakan!




## PENGATURAN SECRETLAB MAGRGB™ (KOTAK KONTROLER) ANDA



## PENGATURAN SECRETLAB MAGRGB™ (APLIKASI NANOLEAF)

Menghidupkan dan mematikan pencahayaan, mengontrol kecerahan, mengelompokkan lampu berdasarkan rumah dan ruangan, membuat dan menggunakan Pemandangan, dan banyak lagi.




### DASHBOARD

Dapat melihat semua kamar dan peralatan dengan aplikasi dengan mudah.



### CUSTOMIZE

Secretlab MAGRGB™ dapat diubah sesuai selera Anda. Pilih dari beragam warna dan pemandangan atau buatlah kreasi sendiri.



### EXPLORE

Dapatkan akses ke informasi bermanfaat termasuk tutorial, fitur perangkat baru, dan banyak lagi.

## OPSI UNTUK RESET

Jika Anda mengalami masalah apa pun dengan Secretlab MAGRGB™, coba langkah-langkah berikut:

### 1) SIKLUS DAYA

Matikan lampu strip Anda dengan mencabut colokan dari stopkontak lalu mencolokkannya kembali.

### 2) WiFi

Matikan dan nyalakan kembali WiFi Anda. Atau, mulai ulang aplikasi yang Anda gunakan untuk pengaturan lampu Anda atau nyalakan ulang perangkat Anda.

### 3) PERIKSA SUMBER LISTRIK ANDA

Pastikan sumber daya Anda tidak dimatikan pada stopkontak.

### 4) LAKUKAN RESET

Ini akan menghapus informasi pairing dan jaringan Anda, jadi Anda perlu menghubungkan ke aplikasi lagi. Sebelum mengatur ulang, hapus Secretlab MAGRGB™ dari aplikasi Nanoleaf dengan menavigasi ke More > My Devices > Swipe Left on your Secretlab MAGRGB™ > Delete.

Untuk melakukan reset pabrik pada Secretlab MAGRGB™ Anda, Tekan dan tahan tombol Power ON/OFF pada kontroler selama 10 detik. Jika reset berhasil, strip lampu akan berkedip merah tiga kali sebelum menjadi gelap. Kemudian akan siap untuk dipasangkan lagi.



Jika Anda telah melakukan semua langkah ini dan masalah Anda masih berlanjut, harap hubungi kami lewat tim support kami untuk bantuan lebih lanjut.

# PERINGATAN & PERHATIAN

Suhu pengoperasian yang ideal berkisar antara 0-40°C <95RH%. Jangan gunakan dalam perlengkapan yang benar-benar tertutup. Produk dirancang untuk penggunaan di dalam ruangan saja dan tidak tahan air.

Jika ada kabel yang rusak, maka akan digantikan oleh pabrik atau agen servisnya atau orang serupa yang berkualifikasi untuk menghindari kecelakaan dari listrik atau kebakaran. Sumber cahaya yang digunakan dalam produk ini tidak dapat diperbaiki sendiri. Jika sumber cahaya rusak, mohon jangan membongkar lampu untuk diperbaiki. Jangan gunakan header Tipe C pada produk ini dengan header USB pada produk atau adaptor lainnya. Hal ini dapat merusak produk Anda.

## INFORMASI KESELAMATAN MAGNET

### PERINGATAN

Panduan ini berisi informasi keselamatan penting untuk membantu Anda menangani magnet neodymium dengan benar dan menghindari cedera dan kerusakan pada magnet itu sendiri. Baca semua informasi keselamatan di bawah ini sebelum pemasangan dan penggunaan.

### Penanganan

Berhati-hatilah saat memasang komponen dengan magnet neodymium agar tidak terjepit. Magnet neodymium juga rapuh. Hindari membenturkannya dengan keras untuk mencegah kerusakan. Jika pecah, buang potongannya dengan hati-hati karena mungkin tajam.

### Jauhkan Magnet dari Anak-anak dan Hewan Peliharaan

Untuk membantu mencegah cedera serius akibat tertelan magnet, jauhkan magnet yang cukup kecil untuk tertelan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Magnet kecil juga bisa menimbulkan bahaya tersedak. Segera dapatkan pertolongan medis jika magnet tertelan atau terhirup.

### Media Magnetik

Jauhkan dari perangkat dan produk yang dapat rusak jika ada magnet yang kuat (misalnya hard drive komputer, kartu kredit, dan kaset).

### Alat Kesehatan

Magnet neodymium dapat mengganggu alat pacu jantung dan perangkat medis implan lainnya. Kami menyarankan Anda berkonsultasi dengan dokter dan produsen perangkat medis Anda untuk mendapatkan informasi khusus tentang perangkat medis Anda dan apakah Anda perlu menjaga jarak minimum antara perangkat medis Anda dan produk kami.

### Allergi

Hindari kontak dengan magnet neodymium jika Anda memiliki alergi nikel.

### Permesinan dan Pengeboran

Jangan mengebor atau mencoba memodifikasi magnet karena debu dan bubuk magnet neodymium sangat mudah terbakar.

### Pemeliharaan Jangka Panjang

Magnet neodymium akan mempertahankan daya tarik dan integritasnya selama beberapa dekade jika ditangani, digunakan, dan dilindungi dengan benar.

# PERINGATAN & PERHATIAN

## PERINGATAN IC FCC dan ID

Perangkat ini mematuhi Bagian 15 Peraturan FCC. Pengoperasian mematuhi dua kondisi berikut:

- (1) Perangkat ini tidak boleh menimbulkan interferensi berbahaya.
- (2) Perangkat ini akan menerima segala interferensi yang terdeteksi, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan. Peralatan ini telah diuji dan terbukti memenuhi peraturan dan ketentuan perangkat digital Kelas B, mematuhi Bagian 15 Peraturan FCC.

Keterbatasan produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap interferensi berbahaya pada instalasi perumahan. Peralatan ini dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio.

Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi pada instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan interferensi berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, Anda dapat mematikan dan menghidupkan peralatan, pengguna dianjurkan untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut dengan satu atau lebih tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau pindahkan antena penerima.
- Tingkatkan jarak antara peralatan dan penerima.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit yang berbeda dari yang terhubung ke penerima.
- Hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

## FREKUENSI RADIO

Bluetooth: 2400-2483.5 MHz  $\leq$ 20dBm; Wi-Fi: 2412MHz-2462 MHz  $\leq$ 20dBm (NA, CA, IL);

Wi-Fi: 2412MHz-2472 MHz  $\leq$ 20dBm (CN, EU, AU, KR, JP, SG, etc)

## DEKLARASI CE

NanoGrid Limited (Nanoleaf) dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini mematuhi persyaratan penting dan ketentuan relevan lainnya dari Directive 2014/53/EU. Pernyataan kesesuaian tersedia di [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## UKCA DECLARATION

NanoGrid Limited (Nanoleaf) dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini mematuhi persyaratan produk dan ketentuan terkait lainnya dari Peraturan Peralatan Radio 2017. Pernyataan kesesuaian tersedia di [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

## PEMBUANGAN PRODUK LAMA ANDA

Produk Anda dirancang dan diproduksi dengan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Jika simbol tempat sampah yang disilang ini ditempelkan pada suatu produk, berarti produk tersebut tercakup dalam European Directive 2012/19/EU. Silakan cari tahu tentang sistem pengumpulan lokal Anda untuk produk listrik dan elektronik. Harap bertindak sesuai dengan peraturan setempat dan jangan membuang produk lama Anda bersama limbah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama Anda dengan benar akan membantu mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## PEMBERITAHUAN HUKUM

Jika ada tanda "Works with Apple" berarti aksesori tersebut telah dirancang untuk bekerja secara khusus dengan teknologi yang diidentifikasi dalam tanda tersebut dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi standar kinerja Apple. Apple tidak bertanggung jawab atas pengoperasian perangkat ini atau kepatuhannya terhadap standar keselamatan dan peraturan.



**Secretlab MAGRGB™ Diffused LED Strip  
Smart Lighting Edition**

**คู่มือการใช้งาน**

<b>อุปกรณ์ในกล่อง</b>	_____	Pg. 1
<b>ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์</b>	_____	Pg. 1
<b>การติดตั้ง</b>	_____	Pg. 2 - 3
<b>ดาวน์โหลดแอป</b>	_____	Pg. 4
<b>การจับคู่ Secretlab MAGRGB™</b>	_____	Pg. 5
<b>การควบคุม Secretlab MAGRGB™</b>	_____	Pg. 6
<b>ปัญหาและวิธีแก้ไข</b>	_____	Pg. 7
<b>คำเตือนและข้อควรระวัง</b>	_____	Pg. 8 - 9

# อุปกรณ์ในกล่อง

## SECRETLAB MAGRGB™ DIFFUSED LED STRIP (SMART LIGHTING EDITION)

X 1



กรุณาอ่านคำเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับแม่เหล็กในหน้าคำเตือนและข้อควรระวัง



### สายเชื่อมต่อ


36 cm

X 1



### กล่องควบคุม


X 1



### อะแดปเตอร์ไฟฟ้า

ประเภท A/C/G/I

X 1



# สเปคผลิตภัณฑ์

รุ่น: NL72S2N15, NL72S2N17

รุ่น NL72S2E15, NL72S2E17

ขนาด: 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

### กำลังไฟฟ้าที่กำหนด:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

การหรี่แสง: 1%-100% with Nanoleaf App

ประกอบด้วย FCC ID: 2AC7Z-ESPC6WROOM1

ประกอบด้วย IC: 21098-ESPC6WROOM1

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 120V AC, 60Hz

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-240V~, 50/60Hz



### ผู้ผลิต

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong

### Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain


### Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France


support@secretlab.co

# การติดตั้ง


- 1** เช็คว่าโต๊ะด้านหลังสามารถเข้าถึงเต้ารับไฟได้สะดวกกว่าเมื่อทำการติดตั้ง Secretlab MAGRGB™ โดยที่สามารถจ่ายไฟได้จากทั้งสองด้านของแถบไฟ LED




- 2** เสียบสายเคเบิลเข้ากับจิวต์อบบนแถบไฟ LED แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลต่อเข้ากับเต้ารับอย่างสมบูรณ์




- 3** ยกฝาหลังของ Secretlab MAGNUS Metal Desk ขึ้น




- 4** จัดวางปลายแถบให้ตรงกับด้านข้างของโต๊ะและติดตั้งจิวต์ปลายแม่เหล็กที่ด้านล่างของโต๊ะ



- 5** จัดแนวปลายของแถบให้ตรงกับด้านของโต๊ะและติดตั้งตัวเชื่อมต่อแม่เหล็กที่ด้านล่างของโต๊ะ




- 6** ติดแถบ Secretlab MAGRGB™ ที่เหลือให้แนบกับโต๊ะและเช็คให้แน่ใจว่าแม่เหล็กแต่ละตัวยึดติดเข้าที่แล้ว






**7** เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับกล่องควบคุม แถบไฟ LED และปลั๊กไฟ DC 12V จากนั้นเสียบอะแดปเตอร์ให้เข้ากับเต้ารับไฟที่เหมาะสม




**8** กดปุ่มเปิด/ปิดบนกล่องควบคุมเพื่อเปิดใช้งาน Secretlab MAGRGB™ หลังจากนั้นคุณก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนของคุณได้แล้ว



# ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน



สแกน QR Code ตามประเภทของ  
โทรศัพท์มือถือ หากต้องการดาวน์โหลด  
แอปพลิเคชัน Nanoleaf



## แอปพลิเคชัน Nanoleaf สำหรับเดสก์ท็อป


หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Screen Mirror โปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nanoleaf สำหรับเดสก์ท็อปลงบน  
คอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเข้าไปที่ลิงก์ต่อไปนี้

<https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app/>

แอปเดสก์ท็อปต้องการระบบปฏิบัติการขั้นต่ำ Windows 10 และ macOS 12

## เพื่อให้การจับคู่ราบรื่น โปรดตรวจสอบว่าคุณเตรียมสิ่งต่อไปนี้ไว้พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ:


- เปิดใช้งาน Bluetooth และ Wifi (2.4GHz) บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
- รองรับการใช้งาน iOS 15.4+ หรือ Android 9+
- ตรวจสอบรหัสจับคู่ (Pairing Code) ได้ที่ด้านหลังกล่องควบคุม




**1** สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดและเปิดแอป Nanoleaf บนสมาร์ทโฟนของคุณ



**2** เลือกแท็บ **MORE**



**3** เลือกแท็บ My Devices และที่ปุ่ม "+" เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ใหม่  
กล่องจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ




**4** คุณสามารถเลือกสแกน QR Code เพื่อทำการจับคู่อุปกรณ์หรือป้อนรหัสจับคู่ด้วยตนเอง

**5** หากคุณเลือกป้อนรหัสจับคู่ด้วยตนเอง ให้เลือก Secretlab MAGRGB™ เป็นผลิตภัณฑ์ จากนั้นคลิก Pair และป้อนรหัสจับคู่


**6** เมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะเชื่อมต่อและพร้อมใช้งานทันที

## การควบคุม Secretlab MAGRGB™ (กล่องควบคุม)



## การควบคุม Secretlab MAGRGB™ (แอปพลิเคชัน Nanoleaf)

เปิดหรือปิดการทำงานของแสง ควบคุมความสว่าง จัดกลุ่มไฟตามบ้านและห้องต่างๆ สร้างและใช้งานฉากต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย




### DASHBOARD

มองเห็นห้องและอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ  
ได้อย่างรวดเร็ว



### CUSTOMIZE

ปรับแต่ง Secretlab MAGRGB™  
ของคุณให้เป็นไปตามที่คุณชอบ  
สามารถเลือกสีและฉากที่หลากหลาย  
หรือสร้างฉากของคุณเอง



### EXPLORE

เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์  
รวมถึงวิธีการใช้งาน ฟังก์ชันใหม่ และอื่นๆ

## ตัวเลือกการรีเซ็ต

หากคุณพบปัญหาใด ๆ กับ Secretlab MAGRGB™ ของคุณ ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

### 1) การรีเซ็ตไฟฟ้า

ปิดการทำงานของแถบไฟโดยถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง

### 2) WiFi

ปิดและเปิด WiFi ของคุณใหม่อีกครั้ง หรือรีสตาร์ทแอปที่ใช้ควบคุมไฟหรือรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

### 3) ตรวจสอบไฟฟ้า

หากคุณทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วยังพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

### 4) รีเซ็ตอุปกรณ์

การรีเซ็ตคือการลบข้อมูลการจับคู่และข้อมูลเครื่อง่าย ดังนั้นคุณจะต้องทำการจับคู่ใหม่

ก่อนทำการรีเซ็ต ให้ลบ Secretlab MAGRGB™ ออกจากแอป Nanoleaf โดยไปที่  
More > My Devices > ปิดซ้ายที่ Secretlab MAGRGB™ ของคุณ > Delete



หากคุณได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วปัญหายังไม่หายไป  
กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

## คำเตือนและข้อควรระวัง

อุณหภูมิการใช้งานที่เหมาะสมคือ 0-40 °C และมีความชื้นในอากาศไม่เกิน RH 95% ห้ามใช้งานในพื้นที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น และไมกันน้ำ หากสายเคเบิลหรือสายไฟนี้เสียหาย โปรดติดต่อผู้ผลิต ตัวแทนบริการของเรา หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันในการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรหรืออัคคีภัย ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แหล่งกำเนิดแสงที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากพบว่าแหล่งกำเนิดแสงเสียหาย กรุณาอย่าถอดชิ้นส่วนหลอดไฟด้วยตนเอง ห้ามใช้หัว Type C ของผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับหัว USB ของผลิตภัณฑ์หรืออะแดปเตอร์อื่นๆ เนื่องจากการจับคู่เช่นนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเสียหายและใช้งานไม่ได้

### ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับแม่เหล็ก

#### คำเตือน

คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญเพื่อช่วยให้คุณจัดการกับแม่เหล็กนีโอโดิเมียมได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานและความเสียหายต่อแม่เหล็กเอง กรุณาอ่านข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดด้านล่างก่อนการติดตั้งและการใช้งาน

#### การจัดการ

ควรระมัดระวังเมื่อทำการติดตั้งชิ้นส่วนที่มีแม่เหล็กนีโอโดิเมียมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหนีบ แม่เหล็กนีโอโดิเมียมมีความเปราะบาง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสที่รุนแรงเพื่อป้องกันการแตกหัก หากแม่เหล็กแตกหัก ควรทิ้งชิ้นส่วนอย่างระมัดระวังเนื่องจากชิ้นส่วนมีความคม

#### เก็บแม่เหล็กให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการกลืนแม่เหล็ก ควรเก็บแม่เหล็กที่มีขนาดเล็กให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยง แม่เหล็กขนาดเล็กอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงหากเกิดการติดคอ หากแม่เหล็กถูกกลืนหรือได้รับการสูดดมเข้าไป จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน

#### สื่อแม่เหล็ก

เก็บให้พ้นจากอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่อาจได้รับความเสียหายจากสนามแม่เหล็กพลังสูง (เช่น ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์, บัตรเครดิต และเทปคาสเซ็ท)

#### อุปกรณ์ทางการแพทย์

แม่เหล็กนีโอโดิเมียมอาจรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่ติดตั้งอยู่ ควรปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณเพื่อขอข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระยะห่างขั้นต่ำระหว่างอุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ของเรา

#### อาการแพ้

หลีกเลี่ยงการสัมผัสแม่เหล็กนีโอโดิเมียมหากคุณแพ้นิกเกิล

#### การกลืนและการเจาะ

ห้ามเจาะหรือพยายามดัดแปลงแม่เหล็ก เนื่องจากฝุ่นและผงแม่เหล็กนีโอโดิเมียมมีความไวไฟสูง

#### การบำรุงรักษา

แม่เหล็กนีโอโดิเมียมจะคงความมีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ไว้ได้เป็นเวลาหลายสิบปี เมื่อทำการใช้งานและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

## คำเตือนและข้อควรระวัง

### คำเตือน FCC และ ID IC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 15 ของกฎระเบียบ FCC การทำงานของอุปกรณ์นี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสองประการดังต่อไปนี้

- (1) อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
- (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้ อุปกรณ์ของผู้ใช้งานเป็นโมฆะ อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามกฎและข้อบังคับสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลประเภท Class B ตามมาตรา 15 ของกฎระเบียบ FCC

ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการรบกวนที่อาจเป็นอันตรายในการติดตั้งภายในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สามารถปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุได้ หากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำเบื้องต้น อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่มีการรบกวนในระหว่างการติดตั้งเกิดขึ้น หากเกิดการรบกวนจากอุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

- ปรับทิศทางหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่แตกต่างจากที่ตัวรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
- ปรีกษาผู้จัดจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

### คลื่นวิทยุ

Bluetooth: 2400–2483.5 MHz ≤20dBm; Wi-Fi: 2412MHz–2462 MHz ≤20dBm (NA, CA, IL);  
Wi-Fi: 2412 MHz–2472 MHz ≤20dBm (CN, EU, AU, KR, JP, SG, ฯลฯ)

### การประกาศ CE

NanoGrid Limited (Nanoleaf) ขอประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดหลักและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นตาม 2014/53/EU สามารถดูประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

### การประกาศ UKCA

NanoGrid Limited (Nanoleaf) ขอประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของกฎระเบียบอุปกรณ์วิทยุ 2017 สามารถดูประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ [www.nanoleaf.me/eudoc/](http://www.nanoleaf.me/eudoc/).

### การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่า

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากผลิตภัณฑ์มีสัญลักษณ์รูปกากบาทกับถังขยะติดอยู่ แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด 2012/19/EU ของยุโรป ผู้ใช้ควรตรวจสอบระบบการเก็บขยะประเภทผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าร่วมกับขยะในครัวเรือน เพราะการกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าอย่างถูกต้องจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

### ประกาศทางกฎหมาย

เครื่องหมาย Works with Apple แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์เสริมได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ระบุในเครื่องหมาย และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานของ Apple อย่างไรก็ตาม Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์นี้หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย



شريط إضاءة LED المنتشرة Secretlab MAGRGB™  
إصدار الإضاءة الذكية


دليل المستخدم



Pg. 1	_____	محتويات العبوة
Pg. 1	_____	مواصفات المنتج
Pg. 2 - 3	_____	التركيب
Pg. 4	_____	تنزيل التطبيق
Pg. 5	_____	إقران SECRETLAB MAGRGB™
Pg. 6	_____	التحكم في SECRETLAB MAGRGB™
Pg. 7	_____	المشكلات والحلول
Pg. 8 - 9	_____	التحذيرات والتنبيهات

## SECRETLAB MAGRGB™ المنتشرة LED شريط إضاءة (إصدار الإضاءة الذكية)

X1



راجع صفحة التحذيرات والتنبيهات للاطلاع على معلومات السلامة بشأن المغناط.

### الكابل الموصل


36 cm

X1



### علبة التحكم


X1



### محول الطاقة

النوع A/C/G/I

X1



## مواصفات المنتج

الطرز: NL72S2N15, NL72S2N17

فولتية الدخل: 120V AC, 60Hz

الطرز: NL72S2E15, NL72S2E17

فولتية الدخل: 240V~, 50/60Hz-100

الأبعاد: 1500mm x 10mm x 16mm, 1740mm x 10mm x 16mm (XL)

### الطاقة المصنفة:

1500mm x 10mm x 16mm: 17W

1740mm x 10mm x 16mm (XL): 19.5W

الإعتماد: with Nanoleaf App %100-%1

يتضمن معرّف FCC: 2AC7Z-ESPC6WROOM1

يتضمن معرّف IC: 21098-ESPC6WROOM1



**المصنع**  
NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road  
Kowloon, Hong Kong



**Nanoleaf Canada**  
#400 - 100 Front Street East  
Toronto ON M5A 1E1  
Canada

**Nanoleaf Europe SAS**  
Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain


**Nanoleaf Europe SAS**  
11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France

support@secretlab.co


**1** حدد جانب المكتب الذي يتيح وصول أسهل إلى أحد مآخذ التيار الكهربائي. يمكن إمداد Secretlab MAGRGB™ بالطاقة عبر أي من طرفي شريط الإضاءة.




**2** واصل الكبل بموصل شريط الإضاءة. تأكد من توصيل الكبل بالكامل بالموصل.




**3** ارفع الغطاء الخلفي لمكتب Secretlab MAGNUS المعدني.




**4** اجعل الجانب الشفاف من شريط Secretlab MAGRGB™ في مواجهتك بحيث يكون في اتجاه الجانب الخلفي للمكتب.




**5** حاذ بين طرف الشريط وجانب المكتب، وثبت الموصل الطرفي مغناطيسيًا بالجهة السفلية للمكتب.




**6** حاذ بين طرف الشريط وجانب المكتب، وثبت الموصل الطرفي مغناطيسيًا بالجهة السفلية للمكتب.



وُضِّل الكبل بالموّضِّل في شريط الإضاءة وقابس 12 فولت ذا التيار المستمر في المحول بعلبة التحكم. وُضِّل المهائئ بأحد مأخذ التيار الكهربائي المناسبة.



اضغط على زر الطاقة في علبة التحكم لتشغيل Secretlab MAGRGB™. يمكن الآن الإقران بهاتفك الذكي.





لتنزيل تطبيق Nanoleaf للجوال في الهاتف الذكي، امسح رموز QR المعنية ضوئياً.



## تطبيق Nanoleaf لسطح المكتب




لاستخدام ميزة نسخ الشاشة يرجى تنزيل تطبيق Nanoleaf لسطح المكتب في الكمبيوتر عبر الرابط التالي:

[/https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app](https://nanoleaf.me/en-US/integration/desktop-app)

يتطلب تطبيق سطح المكتب إصدار نظام تشغيل أحدث من Windows 10 و macOS 12.

### لضمان إجراء عملية الإقران بسلاسة يرجى التأكد من تجهيز المتطلبات التالية:

- جهاز iOS أو Android مزوّد بميزتي Bluetooth و Wifi (بسرعة 2.4 جيجاهرتز) في وضع التشغيل.
- نظام التشغيل iOS 15.4+ أو Android 9+.
- رمز الإقران موجود في الجانب الخلفي لعلبة التحكم.



1 نزل تطبيق Nanoleaf، وابدأ تشغيله في الهاتف الذكي بمسح رمز QR ضوئياً.




3 حدد علامة التبويب "My Devices" (أجهزتي)، وانقر على "+" لإضافة جهاز جديد، وستفتح الكاميرا تلقائياً.

3

2 حدد علامة التبويب MORE (المزيد).

2



4 يمكن اختيار إما مسح رمز QR ضوئياً للإقران، أو إدخال رمز الإقران يدوياً لإتمام العملية.

4


5 عند اختيار إدخال رمز الإقران يدوياً، حدد "Secretlab MAGRGB™" ليكون المنتج المطلوب، ثم انقر على "Pair" (إقران)، وأدخل رمز الإقران.

5

6 بعد إتمام عملية الإقران، من المفترض أن يكون المنتج متصلاً وجاهزاً للاستخدام الآن!


6

## التحكم في SECRETLAB MAGRGB™ (علبة التحكم)



## التحكم في SECRETLAB MAGRGB™ (تطبيق NANOLEAF)

شغّل الإضاءة، أو أوقف تشغيلها، وتحكم في السطوع، وجمّع الأضواء حسب المنزل والغرفة، وأنّج مشاهد واستخدمها، والمزيد من الميزات الأخرى.




### لوحة المعلومات

اعرض جميع الغرف والأجهزة بسهولة وبسرعة.



### التخصيص

أضف الطابع الشخصي على SECRETLAB MAGRGB™. اختر من بين مجموعة واسعة من الألوان والمشاهد، أو ابتدع ألوان خاصة بك.



### الاستكشاف

احصل على معلومات مفيدة، بما فيها برامج تعليمية وميزات جديدة للجهاز، وغير ذلك الكثير.

## خيارات إعادة التعيين

إذا واجهتك أي مشكلات في Secretlab MAGRGB™، فجرب الخطوات التالية:

### (1) دورة الطاقة

أوقف تشغيل شريط الإضاءة، ثم أعد تشغيله من خلال فصله عن مأخذ التيار الكهربائي ثم إعادة توصيله به.

### (2) WiFi

أوقف تشغيل WiFi، ثم أعد تشغيله. كإجراء بديل، أعد تشغيل التطبيق الذي تستخدمه للتحكم في الأضواء، أو أعد تشغيل الجهاز.

### (3) التحقق من الطاقة

تأكد من عدم تعيين مفتاح الطاقة على وضع إيقاف التشغيل في مأخذ التيار الكهربائي أو المشترك الكهربائي.

### (4) إجراء عملية إعادة تعيين

يؤدي ذلك إلى حذف معلومات الإقران والشبكة بحيث لا تحتاج إلى الإقران مجددًا. قبل إعادة التعيين، احذف Secretlab MAGRGB™ من تطبيق Nanoleaf من خلال التنقل إلى More (المزيد) < My Devices (أجهزتي) < Secretlab MAGRGB™ Swipe Left on your Delete < (حذف).

لإجراء إعادة تعيين لإعدادات المصنع في Secretlab MAGRGB™، اضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ على زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة في علبة التحكم. إذا تمت إعادة التعيين بنجاح، فسيومض شريط الإضاءة باللون الأحمر ثلاث مرات قبل أن ينطفئ. وسيكون عندئذٍ جاهزًا للإقران مجددًا.

إذا أجريت جميع تلك الخطوات ولا تزال المشكلة قائمة، فالرجاء التواصل مع فريق الدعم للحصول على مزيد من المساعدة.





النطاق المثالي لدرجة حرارة التشغيل من 0 إلى 40 درجة مئوية >95% رطوبة نسبية. تجنب الاستخدام في أماكن مغلقة تمامًا. صُمم المنتج للاستخدام في الأماكن الداخلية غير المكشوفة فقط، كما أنه ليس ضد المياه.

إذا تلف الكبل أو السلك الخارجي المرن لوحدة الإضاءة هذه، فيجب عدم استبداله إلا عن طريق المصنِّع أو وكيل الخدمة التابع له أو شخص مؤهل مماثل؛ لتجنب التعرض لخطر كهربائي أو حريق. يُستخدم مصدر إضاءة غير قابل للاستبدال في هذا المنتج. إذا تلف مصدر الإضاءة، فالرجاء عدم تفكيك اللمبة بنفسك. لا تطابق رأس Type C في هذا المنتج مع رأس USB في أي منتج أو مهائئ آخر؛ وإلا، فقد يتعذر استخدام المنتج.

### معلومات السلامة بشأن المغناط

#### تحذير:

يحتوي هذا الدليل على معلومات مهمة للسلامة من أجل مساعدتك على التعامل مع مغناط النيوديميوم بشكل سليم، وتجنب حدوث إصابة شخصية أو تلف للمغناط نفسها. اقرأ جميع معلومات السلامة الواردة أدناه قبل التركيب والاستخدام.

#### التعامل

توخَّ العناية عند تثبيت أجزاء باستخدام مغناط نيوديميوم لتجنب التعرض للقرص. مغناط النيوديميوم سهلة الكسر أيضًا. تجنب تعريضها لصدمات عنيفة لمنع كسرها. إذا انكسرت، فتخلص من القطع المكسورة بحرص؛ فربما تكون حادة.

#### احرص على إبقاء المغناط بعيدًا عن تناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

للمساعدة على منع الإصابات الخطيرة الناجمة عن ابتلاع مغناطيس، احتفظ بالمغناط الصغيرة بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة لمنع ابتلاعها. قد تنطوي المغناط الصغيرة أيضًا على خطر الاختناق. اطلب العناية الطبية العاجلة إذا تم ابتلاع مغناط أو استنشاق الغبار.

#### الوسائط المغناطيسية

ابتعد دائمًا عن الأجهزة والمنتجات التي قد تتلف بفعل المجالات المغناطيسية القوية (ومنها: محركات أقراص الكمبيوتر الثابتة وبطاقات الائتمان وأشرطة التسجيل).

#### الأجهزة الطبية

قد تتداخل مغناط النيوديميوم مع منظمات ضربات القلب والأجهزة الطبية الأخرى المزروعة داخل الجسم البشري. ننصح باستشارة الطبيب ومصنِّع الأجهزة الطبية للحصول على معلومات فيما يتعلق بالجهاز الطبي ومدى حاجتك إلى الإبقاء على أقل مسافة بين الجهاز الطبي والمنتج.

#### حالات الحساسية

تجنب التلامس مع مغناط النيوديميوم إذا كنت تعاني من حالة حساسية ضد معدن النيكل.

#### التشكيل والثقب

لا تثقب المغناط ولا تحاول تعديلها، حيث إن غبار أو مسحوق مغناط النيوديميوم عالي القابلية للالتهاب.

#### الصيانة

تحتفظ مغناط النيوديميوم بقدرتها المغناطيسية وكفاءتها لعقود عند التعامل معها واستخدامها وحمايتها بشكل سليم.

### تحذير معرّف FCC وIC

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- (1) قد لا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً.
- (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي يجوز أن يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

قد تتسبب أي تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الشاشة. تم اختبار هذا الجهاز، وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC).

وقد تم وضع هذه اللوائح لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار عند التركيب داخل المنشآت السكنية، نظراً لأن هذا الجهاز يستخدم بل وتصدر عنه ترددات لاسلكية فإنه قد يتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات،

ومع ذلك لا يوجد أي ضمان بأن هذا التداخل لن يحدث في حالة التركيب في وضع معين، وإذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلاً ضاراً لاستقبال الراديو أو التلفاز، وهو ما يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإطفائه، فإننا نحث المستخدم على محاولة تصحيح التداخل بإتباع واحد من الإجراءات التالية أو أكثر:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ تيار كهربائي في دائرة كهربائية مختلفة عن تلك الموصّل بها جهاز الاستقبال.
- ارجع إلى الموزع أو فني راديو أو تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة اللازمة.

### التردد اللاسلكي

Bluetooth: 2400-2483.5 ميگاهرتز ≥ 20 ديسيبل ملي وات; Wi-Fi: 2412-2462 ميگاهرتز ≥ 20 ديسيبل ملي وات (ناميبيا، كندا، فلسطين المحتلة);

Wi-Fi: 2412-2472 ميگاهرتز ≥ 20 ديسيبل ملي وات (الصين، أوروبا، أستراليا، كوريا، اليابان، سنغافورة، وما إلى ذلك)

### إقرار المطابقة للاتحاد الأوروبي

تقر NanoGrid Limited (Nanoleaf) بموجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز يتوافق مع الاشتراطات الضرورية والأحكام الأخرى ذات الصلة في توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/53/EU. يتوفر إقرار المطابقة عبر الموقع [www.nanoleaf.me/eudoc](http://www.nanoleaf.me/eudoc).

### إقرار المطابقة للمملكة المتحدة وكندا

تقر NanoGrid Limited (Nanoleaf) بموجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز يتوافق مع اشتراطات المنتج والأحكام الأخرى ذات الصلة في لوائح الأجهزة اللاسلكية لعام 2017. يتوفر إقرار المطابقة عبر الموقع [www.nanoleaf.me/eudoc](http://www.nanoleaf.me/eudoc).

### التخلص من المنتج القديم

صُمم المنتج وصُنِعَ باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة وقابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. عندما يكون رمز سلة المهملات المزوّدة بعجلات والمشطوب عليها بعلامة الحذف مثبّتاً على منتج؛ ذلك يعني أن المنتج خاضع لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2012/19/EU. يرجى العثور على نظام الجمع المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية. يرجى التصرف وفقاً للقواعد المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة ضمن النفايات المنزلية العادية. تساعد طريقة التخلص الصحيح من المنتج القديم على منع حدوث تبعات سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان.

### الإشعار القانوني

يشير استخدام الشارة "Works with Apple" إلى أن أحد الملحقات قد تم تصميمه للعمل خصوصاً مع التكنولوجيا المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطوّر لتلبية معايير أداء Apple. لا تتحمل Apple مسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو توافقه مع معايير السلامة والتنظيم.